

پند تاریخ ۳

تالیف

موسیٰ خسروی

ترجمہ

محمد حسن جعفری



حَسَنَ عَلِيٰ بُكِّي پُورِ
بالمقابل بڑا امام باڑہ - کھاردر کراچی فون ۲۴۳۳۰۵۵



۷۸۶
۹۲-۱۱۰
یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
version

لیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

NOT FOR COMMERCIAL USE

www.ziaraat.com

SABEEL-E-SAKINA
Unit#8,
Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.
www.sabeelesakina.co.cc
sabeelesakina@gmail.com

عناوین کتاب

باب اول - تواضع

- ۱۱ مقدس اردبیلی کی تواضع
- ۱۲ مقدس اردبیلی کو پہچانیں
- ۱۲ مقدس اردبیلی کی جلالت
- ۱۳ عمار دہنی کا اظہار تواضع
- ۱۵ تواضع کا اثر
- ۱۶ امام زین العابدین سے درس تواضع
- ۱۷ حکم تواضع
- ۱۸ ہر حال میں متواضع رہیں
- ۱۹ انکساری سے پیش آنے کا اجر
- ۲۲ بلندی کے لئے تواضع ضروری ہے
- ۲۳ سعدی بزم علماء میں
- ۲۶ علی نے اپنے لئے کیسا لباس پسند کیا

جملہ حقوق طبع بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب	پند تاریخ جلد سوم
تالیف	موسیٰ خسروی
ترجمہ	محمد حسن جعفری
کمپوزنگ	محمد جواد کاشف
تصحیح	سید فیضیاب علی رضوی
طبع اول	۲۰۰۰ء

- ۵۶ ایلسی غلبہ کا سبب
- ۵۷ خود پسندی کتنی بڑی لعنت ہے
- ۵۹ ایک گزارش
- ۶۰ چند روایات

باب سوم - حلم و بردباری

- ۶۴ امام زین العابدین کی بردباری
- ۶۶ امام محمد باقر کی بردباری
- ۶۸ امام موسیٰ کاظم کی بردباری
- ۷۰ امام حسن مجتبیٰ کی بردباری
- ۷۱ امام صادق کی بردباری
- ۷۳ علی کے ایک تربیت یافتہ شخص کا حلم
- ۷۴ مالک اشتر کو پہچانیں
- ۷۶ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری
- ۸۲ بردباری شرط نبوت و خلافت ہے
- ۸۵ حضرت علیٰ حق بات کے لئے عراض ہوتے ہیں
- ۸۷ ایک اور موقع
- ۹۰ چند روایات

- ۲۸ مہاجرین جوشہ کا بیان سنیں
- ۲۹ لیا ز اپنی حیثیت کو پہچان
- ۳۲ چند روایات

باب دوم - تکبر و خود پسندی کی مذمت

- ۳۶ مکھی کیوں پیدا ہوئی؟
- ۳۷ شیطان کی بات سن لیں
- ۳۸ تنگ دستی بہتر ہے یا مغرور کن دولت؟
- ۳۹ محترم کون اور ذلیل کون؟
- ۴۰ تکبر کی انتہا
- ۴۱ ایک کتا سلطان کا کھانا لے اڑا
- ۴۳ غرور کا سر نیچا
- ۴۴ سلیمان بن عبد الملک اموی کی خود پسندی
- ۴۶ خود پسندی کی وجہ سے لشکر اسلام کو شکست ہوئی
- ۵۰ نسل یوسف میں نبوت کیوں نہ چلی؟
- ۵۲ یوسف اتنی کم قیمت میں کیوں بچے؟
- ۵۴ خسرو پرویز تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا

باب چہارم - سعی و عمل

- ۹۴ جتنا کام اتنی اجرت
- ۹۵ محنت کی عظمت
- ۹۷ زیادہ اجرت زیادہ کام کے بغیر نہیں ملتی
- ۹۷ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے
- ۹۹ جنت فضل سے ملتی ہے یا عدل سے؟
- ۱۰۱ شاہی کی قیمت
- ۱۰۱ قرابت رسول مؤثر ہے یا عمل؟
- ۱۰۳ عمیر خراسانی کے غلام
- ۱۰۳ مؤمنین کے گناہ کیسے زائل ہوتے ہیں؟
- ۱۰۵ ایسے افراد کتنے ہیں؟
- ۱۰۶ درکن عبادت امام زین العابدین سے حاصل کریں
- ۱۰۹ ایک نصیحت کی بات
- ۱۱۱ چند روایات

باب پنجم - عزت نفس

- ۱۱۶ محمد زید علوی کی بلند ہمتی
- ۱۱۷ سید رضی کی بے نیازی

- ۱۱۹ دیانت دہری کی داستان ملاحظہ فرمائیں
- ۱۲۱ دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟
- ۱۲۲ نعمان بن بعیر کی بلند ہمتی
- ۱۲۳ شاعر آل محمد کیت کی بلند ہمتی
- ۱۲۵ ایک باعظمت اور خوش عقیدہ خاتون
- ۱۲۹ جس نے پیغمبر سے مالی مدد کی درخواست نہ کی
- ۱۳۱ چند روایات

باب ششم - لمبی آرزوئیں

- ۱۳۵ محدود عمر اور لا محدود آرزوئیں
- ۱۳۶ محدود عمر کا ایک نمونہ
- ۱۳۷ مچھلی کی آرزو قبر میں لے گئی
- ۱۴۰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خزانہ
- ۱۴۶ ایک انگوٹھی اور جنت کا محل
- ۱۴۷ دنیاوی گھر کا حدود اربعہ
- ۱۴۹ ایک روزہ حکومت کی آرزو
- ۱۵۲ زندگی کی بیماریں آرزو سے قائم ہیں
- ۱۵۳ ایک آرزو اور سو کوڑے
- ۱۵۴ چند روایات

باب ہفتم - ظلم و ستم

- جیسے عمل دیئے حاکم ۱۵۷
- مسد ظلم ۱۵۹
- مکافات عمل سے غافل نہ رہو ۱۶۰
- مکافات عمل کی ایک اور داستان ۱۶۱
- منصور دہلی کے مظالم کی ایک جھلک ۱۶۲
- حجاج ملعون کا انجام ۱۶۳
- ایک بڑھیا کا دندان شکن جواب ۱۶۶
- مظلومیت سادات ۱۶۸
- مظلومین کی داورسی نہ کرنے کا انجام ۱۷۱
- دو بھائیوں کے کردار کا فرق ۱۷۳
- وزارت کے بعد کیا گل کھلائے؟ ۱۷۵
- درد مندانه اپیل ۱۷۸
- چند روایات ۱۸۱

باب ہشتم - عدل و انصاف

- عمر بن عبد العزیز کے عدل کا نتیجہ ۱۸۳
- مظلوم کی صدا سے سلطان بے چین ہو گیا ۱۸۴
- انصاف کی وجہ سے دشمن پر کامیابی ہوئی ۱۸۶

- سلطان ملک شاہ اور یوزھی عورت ۱۸۷
- نوشیروان اور طاق مدائن ۱۸۹
- جب بادشاہ عادل ہو تو رعایا بھی امین ہوتی ہے ۱۹۰
- خصم، منصور کو عدل و انصاف کی تلقین کرتے ہیں ۱۹۱
- سلطان جلال الدولہ اور مظلوم کسان ۱۹۳
- دشمن کے روہو عدل علی کا تذکرہ ۱۹۵
- مساوات حیدری ۱۹۹
- مالک اشتر کا مشورہ اور حضرت علی کا جواب ۲۰۵
- عقیل سے گرم لوہے کی داستان سنیں ۲۰۶
- چند روایات ۲۰۸

باب نہم - مذمت اسراف و سخت گزرائی

- بہلول نے قصر سلطانی کی دیوار پر کیا لکھا؟ ۲۱۵
- فضول خرچی کی بدترین مثالیں ۲۱۶
- تمام پونجی نہ لٹائیں ۲۱۹
- فضول خرچ کون؟ ۲۱۹
- پانی کا ضیاع بھی اسراف ہے ۲۲۰
- خوداک میں اسراف امراض کا سبب ہے ۱۲۲
- عبادت بھی ایمان کے مطابق ہونی چاہئے ۲۲۲

- ۲۲۴ ----- خدا کو میانہ روی پسند ہے
- ۲۲۵ ----- زندگی افراط و تفریط سے پاک ہونی چاہئے
- ۲۲۶ ----- امام صادقؑ اور صوفیاء کا مباحثہ
- ۲۲۳ ----- چند روایات

باب وہم - مذمتِ حُبِ دنیا

- ۲۳۷ ----- چیونٹی نے حضرت سلیمانؑ سے کیا کہا؟
- ۲۳۸ ----- عظیم مقدر کی عجیب موت
- ۲۴۰ ----- خداوندانِ برآئکہ کی ابتدائی حالت
- ۲۳۳ ----- برآئکہ کی خلفاء پر حکمرانی
- ۲۳۵ ----- تصویر انقلاب
- ۲۳۶ ----- صفحاتِ تاریخ پر برآئکہ کی آخری نشانی
- ۲۳۹ ----- لحدءِ فکریہ
- ۲۳۹ ----- حُبِ دنیا تسلیمِ حق میں مانع ہے
- ۲۵۵ ----- حُبِ دنیا کا انجام
- ۲۵۷ ----- عشاقِ دنیا کی شکل و صورت
- ۲۵۸ ----- ایک عورت سے محبت کا انجام
- ۲۶۰ ----- چند روایات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تواضع

مقدس اردیہلی کی تواضع

مقدس اردیہلی کا تعلق ملت جعفریہ کے ان علماء میں سے ہے جن پر پوری ملت فخر کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور میرت امیر المؤمنین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے پیوندِ ذہ لباس پہنتے تھے۔ نجف اشرف میں ایک زائر نے انہیں اپنا میلا لباس اتار کر دیا اور کہا کہ آپ میرے لباس کو جلدی سے دھو دیں۔

مقدس اردیہلی نے زائر کے لباس کو دھونا شروع کیا۔ اسی دوران کسی نے زائر کو بتایا کہ تو نے جنہیں لباس دھونے کے لئے دیا ہے یہ اس وقت کے محدث اعظم اور فقیہ اکبر مقدس اردیہلی ہیں۔

زائر پریشان ہو کر ان کے پاس آیا اور معذرت کی کہ مجھ سے گستاخی سرزد ہو گئی ہے آپ معاف کر دیں۔

مقدس اردیہلی نے کہا بھائی کوئی بات نہیں مومنین کے حقوق ایک

دوسرے پر لباس دھونے سے زیادہ ہیں۔ اس میں تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ (روضات البناات)

مقدس اردوہیلیٰ کو بیچائیں

مقدس اردوہیلیٰ کی عمر کا زیادہ تر حصہ نجف اشرف میں گزرا۔ ان کا شمار نجف اشرف کے حوزۂ عالیہ کو قائم کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس دور میں روضہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے محن میں ایک کٹواں ہوتا تھا۔ جس سے مقدس اردوہیلیٰ پانی بھر کرتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ نماز شب کے لئے اٹھے اور پانی کے لئے کنوئیں میں ڈول پھینکا۔ جب ڈول نکالا تو وہ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ ڈول دوبارہ کنوئیں میں گرا دیا۔ پھر انہوں نے کھینچا تو دوسری مرتبہ بھی ڈول اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔

انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: "آقا من آب می خواهم و زرف می خواهم" مولا مجھے پانی کی ضرورت ہے مال و زر کی نہیں۔ (قصص العلماء)

مقدس اردوہیلیٰ کی جلالت

ایک قصوردار شخص نے مقدس اردوہیلیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ: "شاہ عباس اول مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ مجھے خط لکھ کر دیں تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔"

آپ نے اس شخص کو خط لکھ کر دیا، خط کی عبادت یہ تھی: "چند روزہ شہنشاہیت کے مالک عباس کو علم ہونا چاہئے کہ اگرچہ یہ شخص پہلے ظالم تھا لیکن اب مظلوم ہے، اس کی تفسیر سے درگزر کرو تاکہ حق سچا نہ تمہاری تفسیروں سے درگزر فرمائے۔" (کتبہ عمدہ شاہ ولایت۔ احمد اردوہیلیٰ)

مقدس اردوہیلیٰ کو شاہ عباس نے یہ جواب تحریر کیا: "جو کچھ آپ نے حکم دیا ہم نے اس کی تعمیل کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس محبت کو دعائے خیر میں یاد فرمائیں گے۔" (کتبہ کلب آستان علی۔ عباس)

شاہ عباس نے مقدس اردوہیلیٰ کے خط کو چوما اور کہا: "میرا کفن پیش کیا جائے۔"

شاہ عباس کے صاحبزادہ نے عرض کی: "یو جان آپ کفن منگوا کر کیا کریں گے؟"

شاہ عباس طمساب نے کہا: "جان پدر! میں اس خط کو اپنے کفن میں رکھنا چاہتا ہوں اور قبر میں منگر و کبیر کو یہ خط دکھا کر کہوں گا کہ مقدس اردوہیلیٰ نے مجھے اپنا بھائی لکھا ہے۔"

عمار دہنی کا اظہار تواضع

ورام بن ابی فراس سے روایت ہے کہ ایک دن قاضی ابن ابی لیلیٰ کی عدالت میں عمار دہنی نے گواہی دی۔

قاضی ابن ابی لیلیٰ نے کہا: "عمار دہنی! میں تجھے خوب جانتا ہوں تو رافضی ہے، لہذا اتیری گواہی میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔"

یہ سنتے ہی عمار کا جسم لرزنے لگا اور عمار نے بے ساختہ رونا شروع کیا۔

قاضی نے کہا: "عمار! اگر اس نسبت سے تیری دل آزاری ہوئی ہے اور تو اس نسبت کو اپنے لئے پسند نہیں کرتا تو ہمارا بھائی ہے۔ ہم تیری کو اسی قبول کریں گے۔"

عمار نے کہا: "قاضی! تو غلط سمجھا میں تو تیرے اور اپنے لئے رو رہا ہوں۔ مجھے اپنے اوپر اس لئے رونا آتا ہے کہ تو نے اس عظیم مقام کی طرف میری نسبت دی جس کے میں قابل نہیں ہوں کیونکہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا ہے کہ جب جادوگروں نے فرعون کو چھوڑ دیا اور موسیٰ پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان سے کہا تھا "رفضتمونی" تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ لہذا اسی نسبت سے ان جادوگروں کو لفظ رافضی کے ساتھ پکارا گیا۔ اسی لئے رافضی وہی ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جسے خدا پسند نہ کرتا ہو اور ہر اس چیز پر عمل کرے جو خدا کو پسند ہو۔ ہائے ایسے لوگ اب کہاں ہیں؟ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میں نے بہت بڑا لقب قبول کر لیا ہے۔ اب اگر خداوند عالم قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھ لے کہ تو نے اولیائے خدا کا جو لقب قبول کیا تھا کیا تم میں اسکی صلاحیت موجود تھی؟ میں حیران ہوں میں اپنے خدا کو کیا جواب دوں گا اور میں تیرے حال پر اس لئے رو رہا ہوں کہ تو نے اتنے بڑے نام کو حقیر سمجھ لیا ہے۔"

علامہ مجلسی حار الانوار میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے عمار کے جواب سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا: "عمار نے ہمارے مخالف کے دربار میں کھڑے حق کہا ہے۔ اگر عمار کے گناہ آسمان سے زیادہ ہوں گے تو بھی اللہ معاف فرمادے گا اور اگر اس کے نامہ اعمال میں رائی کے برابر نیکی ہوگی تو اللہ

اسکی ہر نیکی کو اس دنیا سے ہزار گنا زیادہ عطا دے گا۔" (روضات الجنات باب محمد)

تواضع کا ثمر

مدائن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب کی بچیاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بحراریوڑ سے جدا ہو گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے جا لیا۔ آپ نے اسے پکڑ کر پیار کیا اور فرمایا: "تو تھک گیا ہوگا، نادان جانور! یقین کرو میں تمہیں قیمتی سمجھ کر تمہارے لئے نہیں دوڑا، میں اس لئے دوڑا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم پہاڑوں میں اکیلے رہ گئے تو کسی درندے کی خوراک بن جاؤ گے۔"

پھر آپ نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور ریوڑ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور شفقت ملاحظہ فرمائی تو ارشاد فرمایا: "موسیٰ! تو رحم دل ہے، تو میری مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور تو میری مخلوق کو درندوں سے بچانا چاہتا ہے، تو ہم بھی تجھے خلعت نبوت سے سرفراز کریں گے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تمہارا نام باقی رہے گا۔ ہم تجھے اپنا شرف خطاب بخشیں گے اور تجھے اپنا کلیم بنائیں گے۔" (انوار نعمانیہ ص ۳)

الکافی میں امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا: "اے موسیٰ! جانتے ہو میں نے تمہیں کلیم ہونے کا شرف کیوں عطا فرمایا؟ تمہیں کلیم بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے تمام انسانوں پر نظر کی تو تجھ سے زیادہ عاجزی اور تواضع کرنے والا کسی کو نہ پایا، میں نے تمہیں اس لئے کلیم بنایا کہ تم خاک پر سجدہ کرتے تھے اور مجھے تمہاری یہ تواضع پسند آئی۔"

افتادگی آموز اگر طالب فیض
ہرگز نخورد آب زمینی کہ بلند است
اس مقام پر اردو کا یہ شعر لکھنا مناسب نظر آتا ہے کہ (مترجم):
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے

امام زین العابدینؑ سے درس تواضع

ایک دن مشہور شاعر اور محدث محمد بن شہاب زہری غمگین شکل و صورت
لئے امام علی زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

امام علیہ السلام نے زہری سے پریشانی کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا:
”مجھے ان لوگوں پر غصہ آتا ہے جن سے میں تو نیکی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے
حسد کرتے ہیں۔“

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ”تمہارے لئے ضروری ہے کہ
تمام مسلمانوں کو اپنا ذاتی خاندان تصور کرو۔ ان میں سے جو تم سے بڑا ہو اسے
اپنے باپ کے مقام پر سمجھو اور جو تم سے چھوٹا ہو اسے بیٹے کے مقام پر سمجھو اور
جو تمہارا ہم عمر ہو اسے اپنا بھائی تصور کرو، پھر تم سوچو کہ آیا اپنے خاندان کے
افراد کا کوئی نقصان تمہیں پسند آتا ہے؟ کیا تم اپنے خاندان پر ظلم یا بددعا کرنا گوارا
کرو گے یا یہ پوچھو گے کہ ان کے راز آشکار ہو جائیں؟ اور اگر تبھی ابلیس تمہارے
دل میں یہ دوسوسہ پیدا کرے کہ تم ان سے بہتر ہو تو شیطانی دوسوسہ کو اپنے دل
سے دور کرو اور اپنے آپ سے کہو کہ فلاں شخص مجھ سے عمر میں بڑا ہے یہ ایمان

لانے میں مجھ پر سبقت رکھتا ہے اور اس کے نیک عمل مجھ سے زیادہ ہیں۔ اگر وہ
تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو تم اپنے دل میں یہ خیال کرو کہ اس کی عمر مجھ سے کم
ہے اسی لئے اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہیں، لہذا یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ
شخص تمہارا ہم عمر ہو تو تم اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرو کہ مجھے اپنے گناہوں کا
یقین ہے اور اس کے گناہوں کا شک ہے، لہذا یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر تم کسی
کو اپنا احترام کرتے ہوئے دیکھو تو تم میں تکبر اور خود پسندی کے جذبات پیدا
نہیں ہونے چاہئیں تم اپنے دل میں کہو کہ اسلام ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان
کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ اسی لئے یہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں ورنہ مجھ میں
کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اپنے آپ سے بے اعتنائی کرتا ہوا
پاؤ تو یہ سمجھو کہ یہ تمہارے گناہوں کی پاداش ہے۔

یاد رکھو اگر تم نے میری باتوں پر عمل کیا تو تمہارے دوست زیادہ اور
دشمن کم ہوں گے۔ تم ان کی خوبیوں سے مستفید ہو سکو گے اور ان کی برائیوں
سے محفوظ رہو گے۔“ (حدیث الانوار ج ۱۶ ص ۴۴)

حکم تواضع

محمد بن مسلم کوفہ میں رہتے تھے اور بہت بڑے دولت مند شخص تھے۔ وہ
مدینہ آئے تو امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا: ”تم
عاجزی اور تواضع اختیار کرو۔“

جب محمد بن مسلم کوفہ واپس گئے تو انہوں نے مسجد کوفہ کے دروازہ پر
چٹائی بچھا کر کھجوریں پھینا شروع کر دیں اور کھجور کے لئے آواز لگانے لگے۔ ان

کے خاندان والوں نے ان کا یہ کاروبار دیکھا تو جمع ہو کر ان کے پاس آئے اور کہا
 ”آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔“

انہوں نے کہا: ”مجھے میرے امہ نے جائزی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور
 میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے میری جھوٹی لانا کو ضرب لگتی ہے اور غرور و
 تکبر کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔“

ان کے خاندان والوں نے کہا: ”اگر آپ کو کاروبار ہی کرنا ہے تو پھر
 لاکھوں کا کاروبار کریں اور پوری مارکیٹ پر چھا جائیں۔“

انہوں نے کہا: ”میرا مقصد زیادہ منافع حاصل کرنا اور دولت جمع کرنا
 نہیں ہے میں چھوٹا سونا کاروبار کر کے اپنے نفس لسارہ کو شکست دینا چاہتا ہوں۔“

آخر میں انہوں نے آنے کی ایک چکی خرید لی اور سارا دن چکی پر دانے پیسا
 کرتے تھے۔ (حدائق الانوار ج ۱۶ ص ۱۵۵)

ہر حال میں متواضع رہیں

احمد بن محمد بن نعلی کہتے ہیں کہ ایک رات میں اور صفوان بن یحییٰ اور محمد بن
 سنان اور عبد اللہ بن مغیرہ امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم کچھ دیر
 امام عالی مقام کے پاس بیٹھے پھر ہم نے واپس جانے کے لئے آپ سے اجازت
 طلب کی تو امام نے سب کو اجازت دی مگر مجھے فرمایا: ”احمد تم یہاں بیٹھے رہو۔“

میرے تمام دوست چلے گئے۔ میں امام کے پاس بیٹھا رہا اور گفتگو کرتا رہا۔
 میں سوال کرتا رہا اور امام جواب دیتے رہے اور یوں رات کا ایک حصہ گزر گیا۔
 میں نے ارادہ کیا کہ اب اپنے مولاً سے اجازت لے کر گھر جاؤں۔ اس وقت امام

علی رضا نے فرمایا: ”اس وقت گھر جاؤ گے یا یہاں سونا پسند کرو گے؟“

میں نے عرض کی: ”جیسا آپ حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔“

امام نے فرمایا: ”اس وقت کافی دیر ہو چکی ہے لوگ سو چکے ہیں اور اس

وقت تمہاری حویلی کے در پہ زنجیر لگی ہوگی بھڑکی ہے کہ تم نہیں سو جاؤ۔“

میں وہاں لیٹا تو امام زمانہ میں چلے گئے۔ میں سمجھا کہ امام اب واپس یہاں

نہیں آئیں گے۔ اس وقت میں نے وضو کیا اور دو رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے سر

سجدہ میں رکھا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے علوم انبیاء کے

وارث کی نظر میں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو میرے باقی دوستوں کو حاصل نہیں

ہے۔ میں ابھی حالت سجدہ میں ہی تھا کہ امام خلاف توقع زمانہ سے باہر تشریف

لائے اور پاؤں کی ٹھوک سے مجھے متوجہ کیا۔ میں سجدہ سے اٹھ بیٹھا تو امام علی رضا

نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا: ”احمد! ایک

مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام مصعب بن صفوان کی عیادت کے لئے اس کے

گھر تشریف لے گئے اور جب وہاں سے اٹھنے لگے تو فرمایا: ”اے مصعبہ

خبردار! میرے یہاں آنے کو اپنے باقی مؤمن بھائیوں پر ذریعہ افتخار نہ بنانا۔ خدا

سے ڈرنا اور میری اس عنایت کو اپنی فضیلت کا سبب قرار نہ دینا۔“

یہ کہہ کر امام علی رضا علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر چلے

گئے۔ (منہج الامال ج ۲ ص ۲۳۹)

انکساری سے پیش آنے کا اجر

محدث نوری دارالاسلام کی جلد دوم میں رقم طراز ہیں۔ مایات کے ایک

حکومتی تحصیلدار نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین کے ایک زائر کو نجف اشرف میں زود کوب کیا اور اس بے چارے زائر کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔

زائر نے تحصیلدار سے کہا: ”تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور میں امیر المؤمنین کی خدمت میں تمہارے ظلم و ستم کی شکایت کروں گا۔“

تحصیلدار نے کہا: ”میں تمہاری ان باتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔“

زائر نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر اطہر پر اس تحصیلدار کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور کہا: ”مولاً! میں آپ کا زائر اور مہمان ہوں، آپ کا حق بتا ہے کہ آپ اپنے زائرین کو ظالموں سے چھینیں اور ظالموں کو سخت سزا دیں۔“

حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں کچھ ایسے زائر بھی موجود تھے جنہوں نے اس زائر کو اپنی آنکھوں سے ظلم و ستم کا نشانہ بننے ہوئے دیکھا تھا ان سب نے آمین کہی۔ زائر صبح، ظہر اور نماز مغرب کے وقت امیر المؤمنین کی خدمت میں مسلسل یہی درخواست پیش کرتا رہا۔

رات کو سویا تو اس نے عالم خواب میں ایک عظیم الشان ہستی کو گھوڑے پر سوار دیکھا اور انہوں نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی۔ زائر نے عالم خواب میں پوچھا کہ: ”آپ کون ہیں؟“

تو انہوں نے کہا: ”میں وہی ہوں جس کی زیارت کے لئے تم آئے ہو، میں علی بن ابی طالب ہوں۔“

زائر کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو چاہا کہ اپنے مقام سے اٹھ کر آپ کے قدموں کا بوسہ لوں۔ مگر انہوں نے فرمایا: ”بس رک جاؤ۔“

اس کے بعد میرے پاؤں میں چلنے کی سکت نہ رہی۔ میں جہاں تھا وہیں

رک گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: ”تم نے فلاں شخص کی ہمارے پاس شکایت کی ہے؟“

میں نے عرض کی: ”جی ہاں! اس نے مجھے آپ کی محبت کی وجہ سے اذیت دی ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”میری وجہ سے اسے معاف کر دو۔“

میں نے کہا: ”مولاً! میں اسے معاف نہیں کروں گا۔“

آپ نے تین مرتبہ یہی الفاظ دہرائے اور میں نے تینوں مرتبہ انکار کیا۔ صبح اٹھ کر زائر نے باقی زائرین کو اپنا خواب سنایا تو باقی زائرین نے کہا:

”تمہیں چاہئے کہ تم اسے معاف کر دو۔“

مگر زائر نے کہا: ”میں اس ظالم کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔“

دوسرے دن زائر نے پھر رو رو کر اس ظالم کی شکایت کی۔ اس رات بھی مولا علی علیہ السلام کی اسے زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے اسے معاف کرنے کے لئے کہا۔ مگر زائر نے معاف کرنے سے معذرت کی۔

تیسرے دن زائر نے مزید رو رو کر ظالم کے خلاف شکایت کی اور جب آپ نے فرمایا ”اے میرے زائر! مجھے سزا دینے میں دیر نہیں لگتی لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو کیونکہ میں اس کی ایک نیکی کا مقروض ہوں۔“

ایک مرتبہ وہ بغداد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر میرے قبہ پر پڑی تو وہ اپنی سواری سے اترا اور جب تک میرا روضہ اسے نظر آتا رہا وہ پیدل چلتا رہا۔ اسی لئے میں اس کی اس نیکی کا مقروض ہوں۔ تم اسے معاف

کر دو۔ عنقریب اسے توبہ کی توفیق ملے گی اور وہ ہمارا سچا خادم بن جائے گا اور تم

پر جو اس نے ظلم کیا ہے میں قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔“

زاز نے خواب میں کہا: ”مولا میں اب راضی ہوں۔“

صبح ہوئی تو وہی تحصیلدار اس زائر کو ملا اور پوچھا کہ: ”تم نے شکایت تو کی ہوگی لیکن دیکھ دیجئے مجھے چھ بھی نہیں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری شکایت کسی نے نہیں سنی۔“

زاز نے کہا: ”تم غلط سمجھتے ہو۔ امیر المؤمنین کو آج تک تمہاری ایک نیکی یاد ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔“

تحصیلدار نے تفصیل پوچھی تو زائر نے بتایا: ”امیر المؤمنین نے مجھے بتایا ہے کہ ایک دفعہ یہ شخص ساواہ کے قصبہ سے بغداد جا رہا تھا کہ اس کی نظر میرے قبۃ اطہر پر پڑی تھی تو یہ ازروئے احترام اپنے گھوڑے سے اتر پڑا تھا اور جب تک میرا قبۃ اسے نظر آتا رہا یہ پیدل چلتا رہا۔ اسی لئے امیر المؤمنین علیہ السلام مسلسل تین راتوں تک مجھے معاف کرنے کا مشورہ دیتے رہے۔“

جب تحصیلدار نے زائر کی زبانی یہ واقعہ سنا تو زائر کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اس نے ایک ہزار دینار زائرین میں تقسیم کئے اور تمام زائرین کو پر تکلف و دعوت دی۔

بلندی کے لئے تواضع ضروری ہے

ایک شخص جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لئے آیا اور آپ کے دروازے پر دستک دی۔

اندر سے آپ نے فرمایا: ”کون؟“

تو اس نے کہا: ”انا“ (میں ہوں)۔

اس وقت آپ حجرہ سے باہر تشریف لائے فرمایا: ”انا“ میں کہنے والا کون ہے؟ ”انا“ کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ کتا ہے: ”انا الجبار، انا القہار، انا الخالق“ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں خالق ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے دو رسیاں مقرر کی ہیں ایک رسی زمین سے شروع ہو کر عرش تک جاتی ہے اور وہاں اس کا سرا ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری رسی زمین سے شروع ہو کر نیچے تحت الثریٰ تک جاتی ہے۔ جہاں اس کا سرا فرشتہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ ہمارے بندہ نے انکساری اختیار کی ہے لہذا تم اسے بلند کرو۔ یہاں تک وہ اسے زمین سے کھینچ کر عرش پر پہنچا دیتا ہے۔

اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ تحت الثریٰ والے فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ ہمارا بندہ اپنی اصلیت کو بھول چکا ہے اور وہ تکبر کرنے لگا ہے تم اسے اٹھا کر تحت الثریٰ کی پستی میں پہنچا دو۔ چنانچہ وہ فرشتہ اسے فرش زمین سے اٹھا کر پستیوں کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ (انوار نعمانیہ ص ۲۶۸)

وضاحت: دو رسیوں سے مراد ظاہری اور دکھائی دینے والی رسیاں نہیں ہیں۔ اس سے مراد وہ قوت ہے جو دونوں فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔

سعدی۔ بزم علماء میں

شیخ سعدی نے بوستان کے باب تواضع میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ

ایک مرتبہ ایک عالم اور دانشور پھنا پرانا لباس پہن کر علماء کی محفل میں وارد ہوا اور ایک عالم کے قریب بیٹھ گیا۔ محفل میں موجود علماء اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے، ان کی نگاہیں واضح طور پر یہ پیغام سنارہی تھیں کہ تجھے بزم علماء میں اس طرح بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ سعدی کے بقول حالت یہ ہوئی

نگہ کرد قاضی در لو تیز تیز

مغرف گرفت آہنیں کہ خیز

قاضی نے گھور گھور کر اسے دیکھا اور نوکر نے آکر اس کی آستین پکڑ کر کہا

کہ اٹھو اور اسے حاضرین کی مجلس کے ایک کونے میں بٹھادیا گیا۔

علماء نے ایک مسئلہ پر بحث شروع کی لیکن بحث میں ایسے الجھے کہ سراسر کسی کے ہاتھ نہ آیا اور مسئلہ کسی طرح حل نہ ہوا۔ جب تمام علماء اس مسئلہ میں عاجز آگئے تو پھٹے پرانے لباس والے شخص نے اس مسئلہ پر بحث و گفتگو شروع کی اور اس کے تمام پیلوؤں پر اس انداز سے روشنی ڈالی کہ پورا مجمع عیش عیش کر اٹھا۔

یہ دیکھ کر قاضی نے اپنی دستار خادم کی ہاتھ بھینچی تاکہ اس گناہ عالم کے سر پر رکھی جائے مگر اس نے دستار اپنے سر پر سجانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے تکبر کے اس وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہاری طرح سے یہ لباس زیب تن کر لیا تو میں بھی لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں گا۔

چون مولام خوانند و حبر کبیر

نمایند مردم بچشم حقیر

تفاوت کند هرگز آب زلال؟

گوش کوزه زرین بودیا سفال

چہ خوش گفت خرمہرہ ای در گلی

جو برداشتش بر طمع جاہلی

مراکس نخواهد خریدن بھیج

بدیوانگی در حریم مسیح

نہ منعم بمال از کسی بہتر است

خوار جل اطلس بیوشد خواست

تشریح: جب مجھے بھی مولانا اور عالم کبیر کے نام سے پکارا جائے گا تو مجھے بھی لوگ حقیر نظر آنے لگیں گے۔

ٹھنڈا اور بیٹھاپانی خواہ سنہری جام میں ہو یا مٹی کے پیالے میں، اس سے پانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی (انسان کے سر کو علم کی ضرورت ہے۔ مجھے تمہاری طرح سے اپنے سر کے لئے خوبصورت دستار کی ضرورت نہیں ہے۔)

مٹی میں پڑی ہوئی کواڑی نے اپنے اٹھانے والے جاہل لالچی سے کیا ہی خوب کہا تھا کہ بازار میں میرا کوئی خریدار نہیں ہے۔ لہذا بے وقوفی نہ کر اور مجھے ریشم میں مت لپیٹ کوئی شخص مال و دولت کی وجہ سے کسی سے بہتر نہیں ہوتا۔ گدھے کو اگر اطلس کی چادر بھی پہنائی جائے تو وہ پھر بھی گدھا ہی رہے گا۔

نو وارد عالم کی شیریں بینی اور استدلال کو دیکھ کر پورا مجمع انگشت بدنداں رہ گیا اور پورا مجمع اس سے ہاتھ ملانے کے لئے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگا لیکن نو وارد نے وہاں بیٹھنا مناسب نہ جانا اور فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔

قاضی نے ان کے نام و نشان کی تحقیق کے لئے ایک شخص کو روانہ کیا۔ اس کے بعد کا حال سعدی کے اپنے الفاظ میں سنیں:

نقیب از پیش رفت و هر سو دوید

که مردی بدین نعت و صورت که دید

یکی گفت ازین نوع شیرین نفس

دراین شهر سعدی شنا سیم و بس

تقاضی کا نتیجاً: وہ نام نہاد ہر طرف گیا اور ہر سمت دوڑا اور لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس شکل و صورت کا آدمی دیکھا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اس قسم کا شہین سخن شخص تو اس شہر میں صرف سعدی ہی ہے۔ اس کی علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔

علی نے اپنے لئے کیسا لباس پسند کیا؟

ایک مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے غلام قنبر کو ساتھ لے کر بازار تشریف لے گئے۔ آپ بازار سے بیراہن خریدنا چاہتے تھے۔

آپ نے دکاندار سے فرمایا ”مجھے دو بیراہن کی ضرورت ہے۔“ دکاندار نے کہا: ”امیر المؤمنین! آپ کو جس قسم کے بیراہن کی ضرورت ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔“

جیسے ہی آپ نے محسوس کیا کہ دکاندار انہیں پہچانتا ہے تو آپ نے اس کی دکان کو چھوڑ دیا۔ ایک اور دکان پر تشریف لائے۔ جہاں دکاندار کا بیٹا خرید و فروخت میں مشغول تھا۔

آپ نے لڑکے سے دو بیراہن خریدے۔ ایک بیراہن تین درہم اور دوسرا بیراہن دو درہم میں خریدے۔ پھر آپ نے تین درہم والا بیراہن قنبر کو دیا

اور دو درہم والا بیراہن اپنے پاس رکھا۔

قنبر نے عرض کی ”مولا! بھتر یہ ہے کہ یہ بیراہن قیمتی ہے آپ اسے پہنیں کیونکہ آپ کو منبر پر بیٹھ کر وعظ و تقریر کرنی ہوتی ہے۔ مجھے کم قیمت بیراہن دے دیں۔“

آپ نے فرمایا: ”قنبر تم جوان ہو، لہذا تم قیمتی بیراہن پہنو اور میں بوڑھا ہوں مجھے یہی زیب دیتا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو تم پر ترجیح دیتے ہوئے خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں نے پیغمبر اسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا:

البسوہم مما تلبسون و اطعموہم مما تاکلون

جو تم خود پہنو وہی غلاموں کو پہناؤ اور جو غذا تم خود کھاؤ غلاموں کو بھی وہی غذا کھاؤ۔“

پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ بیراہن پہنا۔ اس کی آستین آپ کے ہاتھ سے لمبی تھی۔ آپ نے زائد حصہ کو کاٹ دیا اور فرمایا: ”اس سے کسی ضرورت مند شخص کی ٹوپی بن سکتی ہے۔“

دکاندار لڑکے نے کہا: ”اجازت دیں تو میں آپ کی آستین ہی دوں۔“

آپ نے فرمایا ”زمانہ کی گردش آستین سینے سے زیادہ تیز ہے۔“

آپ دو بیراہن خرید کر واپس چلے آئے کچھ دیر بعد دکاندار آپ کے پاس آیا اور عرض کی ”مولا! معافی چاہتا ہوں دکان پر میرا بیٹا خرید و فروخت کر رہا تھا اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، لہذا اس نے آپ سے دو درہم منافع لیا ہے، آپ یہ دو درہم واپس لے لیں۔“

آپ نے فرمایا: ”نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم نے قیمت کے متعلق

تمہارے لڑکے سے مول تول کر لی تھی اور اس مقدار پر ہم دونوں راضی ہو گئے تھے، لہذا تمہیں دو درہم واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔“ (حداد الانوار ج ۹ صفحہ ۵۰۰)

﴿مہاجرین حبشہ کا بیان سنیں﴾

جس زمانہ میں حضرت جعفر طیار دوسرے مہاجرین کی ساتھ حبشہ میں قیام پذیر تھے تو ایک دن نجاشی نے حضرت جعفر کو اپنے ہاں بلایا۔ جناب جعفر طیار اپنے ساتھیوں سمیت نجاشی کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نجاشی نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خاک پر بیٹھا ہوا ہے۔ نجاشی کی یہ حالت دیکھ کر مہاجرین پریشان ہو گئے۔ نجاشی نے کہا کہ: ”میرا ایک جاسوس ہے جس کا تعلق نسی ضمرہ سے ہے۔ اس نے مجھے خبر سنائی ہے کہ اللہ نے اپنے رسولؐ کو دشمنوں پر فتح عطا فرمائی ہے اور فلاں فلاں مشرور کافر قتل ہوئے ہیں اور فلاں فلاں کو لشکر اسلام نے اپنا قیدی بنا لیا ہے اور یہ واقعہ جنگ بدر کے مقام پر واقع ہوا ہے۔“

یہ سن کر جعفر طیار نے کہا: ”پھر آپ نے پرانا لباس کیوں پہن لیا ہے اور آپ خاک پر کیوں بیٹھے ہیں؟“

نجاشی نے کہا: ”ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے تم کو مسلسل نعمت ملے تو تمہیں مسلسل انکساری کرنی چاہئے۔ اللہ نے مجھے محمدؐ جیسا نبی عطا کیا ہے اور اللہ نے اسے دشمنوں پر فتح دی ہے اسی نعمت کے شکرانہ کے طور پر میں انکساری کر رہا ہوں۔“

جب پیغمبر اکرمؐ کو اس واقعہ کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا ”ان الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا بحکم اللہ وان التواضع صاحبہ رفعة فتواضعوا يرفعکم اللہ وان العفو يزيد صاحبہ عزاً فاعفوا يعزکم اللہ“

”صدقہ دولت و ثروت کے اضافہ کا سبب ہے تم صدقہ دو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تواضع بلندی کا سبب ہے تم تواضع کرو اللہ تمہیں بلندی دے گا اور عفو و درگزر عزت کا سبب ہے تم غنودرگزر کرو اللہ تمہیں عزت دے گا۔“

وضاحت: حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ یہاں نجاشی سے مراد وہ بادشاہ ہے جس نے مہاجرین حبشہ کو پناہ دی تھی اور فتح مکہ سے قبل رسول مقبولؐ پر ایمان لایا تھا۔ اس کا اصلی نام احمد بن بصر تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو پیغمبر خدائے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جنازہ کے وقت جبرئیل امین نے نجاشی کا جنازہ حضورؐ کے سامنے رکھ دیا تھا۔

﴿ایاز اپنی حیثیت کو پہچان﴾

ایاز ایک غلام تھا جسے سلطان محمود غزنوی نے بازار سے خریدا تھا۔ ایاز کے مخفی جوہر آہستہ آہستہ سلطان کے سامنے کھلتے گئے تو اس نے ایاز کو اپنا مقرب بنا لیا یہ قربت اتنی بڑھی کہ اس کے باقی وزراء و امراء ایاز سے حسد کرنے لگے۔

ایاز کا اصول تھا کہ وہ روزانہ سلطان کے دربار سے اٹھ کر اپنے ایک مخصوص کمرے میں آتا اور کچھ وقت وہاں گزار کر اپنے محل میں آتا تھا اور وہ اپنے مخصوص کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔

حسد و زیروں نے سلطان سے شکایت کی کہ: ”ایاز آپ کی برائی کا خواہاں

ہے۔ اس نے اپنے لئے ایک علیحدہ کمرہ بنایا ہوا ہے جہاں وہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ اس کمرے میں بیٹھ کر آپ کے مخالفین سے خط و کتابت کرتا رہتا ہے۔“

یہ سن کر سلطان نے کہا: ”آج ہم اس کے کمرے کو اندر سے دیکھیں گے۔“

جب ایاز دربار سے اٹھ کر چلا تو وہ حسب معمول اس کمرہ کی طرف گیا۔ جب وہ کمرہ میں کھڑا تھا تو سلطان نے اس کے دروازہ پر دستک دی اور کہا ”ایاز دروازہ کھولو۔“

سلطان کی آواز سن کر ایاز نے دروازہ کھولا تو سلطان یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس نے پھنسا پرانا لباس پہنا ہوا تھا اور قد آدم شیشے کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔

سلطان نے ایاز سے پوچھا کہ: ”ایاز یہ کیا ہو رہا ہے؟“

تو وقادار غلام نے کہا کہ: ”آپ نے مجھے بے حد عزت سے نوازا ہے کبھی کبھی میرا نفس سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اسی لئے میں روزانہ اس کمرہ میں آکر اپنا دور غلامی کا لباس پہن لیتا ہوں اور اس آئینہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے کہتا ہوں: ”ایاز اپنی حیثیت کو پہچان لے۔“ تو اس طرح میرے ذہن سے تکبر و غرور دور ہو جاتا ہے۔“ (مشہور مولوی سے اقتباس)

ایاز کی اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم بھی عبرت حاصل کریں کہ ہماری اصلیت کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں۔

ایک وہ وقت تھا کہ ہم بالکل ذرہ ناچیز تھے اور پھر نطفہ کی شکل میں رحم

مادر میں داخل ہوئے اور خون میں غوطہ زن رہے اور ہماری تخلیق اس نطفہ گندیدہ سے ہوئی جس سے انسانی طبیعت نفرت کرتی ہے۔ اسی لئے قرآن نے انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی ہے اور فرمایا ”فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق ینخرج من بین الصلب والترائب“ (سورۃ الطارق)

انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ وہ ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا جو باپ کی پشت اور ماں کی پڈیوں سے برآمد ہوتا ہے۔

پھر وہ وقت بھی آیا جب ہم نے شکم مادر سے زمین پر قدم رکھا اس وقت ہم اتنے عاجز تھے کہ رونے کے سوا کچھ بھی کرنے کی قابل نہ تھے۔ مکمل طور پر بے بس اور مکمل طور پر لاعلم تھے۔ قرآن نے انسان کو اس کا وہ وقت بھی یاد دلایا ہے۔ ”اخر حکم من بطون امہاتکم لاتعلمون شینا فجعل لکم السمع والابصار والافئدة“ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے برآمد کیا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، تمہارے علم کے لئے اس نے کان آنکھیں اور دل بنائے۔“

اہلیت کا کردار بھی ایسا ہی ہے۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بد صورت بادیہ نشین کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور اٹھتے وقت فرمایا: ”میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔“

کسی نے امام سے کہا: ”آپ جیسی شخصیت کو ایک بد صورت اور گنہگار شخص سے باتیں کرنے اور اس کی ضرورت پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟“

فقال: عبد من عبید اللہ واخ فی کتاب اللہ و جاز فی بلاد اللہ یجمعنا وایاہ خیر الایاء ادم و افضل الادیان الاسلام و لعل الدھر یرد من حاجتنا الیہ فیردنا بعد الزھو علیہ متواضعین بین یدہ۔

آپ نے جواب میں فرمایا: ”اس سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے اور کتاب اللہ میں وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور اللہ کے ملک میں وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ باپ کے اعتبار سے وہ ہمارے باپ آوم کا بیٹا ہے اور دین کے لحاظ سے وہ ہمارے بہترین دین اسلام کا پیروکار ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ انقلاب زمانہ کے تحت کسی روز ہم بھی اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں اور آج تو ہم اس کے مقابلہ میں تکبر کریں اور کل ہم اس کے سامنے عاجز و بے بس نظر آئیں۔“

آج کے انسان کو چاہئے کہ وہ دانائے راز علی سے اپنی قدر و قیمت سنے، حضرت علی فرماتے ہیں: ”عجبت لمن كان اوله نطفة و اخره حيفة و ما بين ذلك حامل العذرة كيف يتكبر.“

مجھے تعجب ہے اس پر جس کا آغاز نطفہ اور جس کا انجام مردہ ہے اور آغاز و انجام کے درمیان وہ نجاست اٹھائے پھرتا ہے۔ وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟“
تواضع و انکساری سے آپ دوسروں کے دلوں میں اپنے لئے محبت پیدا کر سکتے ہیں اور یوں آپ کے اٹھے ہوئے مسائل چشم زدن میں حل ہو سکتے ہیں۔

چند روایات

فی وصایا النبی لامیر المؤمنین: یا علی واللہ لو ان الوضع فی قعر بنر لبعث اللہ الیہ ریحاً یرفعه فوق الاخیار فی دولة الاشرار۔

”خیزد لہ تواضع“

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو کچھ

وصیتیں فرمائی تھیں جن میں ایک وصیت یہ تھی: ”یا علی! تواضع کرنے والا شخص کنوئیں کی گرائی میں بھی کیوں نہ پڑا ہو تو بھی اللہ اس کے لئے ہوا چلائے گا جو اسے ستم گروں کی حکومت میں ممتاز لوگوں سے بھی بلند کرے گی۔“

واعتمدوا وضع التذلل علی رؤسکم و الفاء التضرر تحت اقدامکم و خلع التکبر من اعناقکم و اتخذوا التواضع مسلحة بیکم و بین عدو کم ابلیس و حنوده فلو رخص اللہ فی الکبر لاحد لرخص فیہ لخاصة انبیاءہ و اولیائہ و لکنہ سبحانه کرہ لهم التکا بر و رضی لهم التواضع فالصقوا بالارض خذو دهم و عفروا فی التراب و جوههم و خفضوا اجنتهم للمؤمنین ...

عاجزی و انکساری کو سر کا تاج بناؤ۔ تکبر اور خود خوانی کو پیروں تلے روندو اور تکبر اور رعب و دبدبہ کا طوق گردن سے اتارنے کا مضبوط عزم کر لو۔ اپنے اور اپنے دشمن شیطان اور اس کی فوج کے درمیان عاجزی اور انکساری کا مورچہ قائم کرو۔ اگر خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی تکبر و رعب کی اجازت دے سکتا ہوتا تو وہ اپنے مخصوص انبیاء و اولیاء کو اس کی اجازت دیتا لیکن اس نے ان کو کبر و غرور سے بیزار ہی رکھا اور ان کے لئے عجز و انکساری ہی کو پسند کیا۔

چنانچہ انہوں نے اپنے رخسار زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلود رکھے اور مؤمنین کے آگے تواضع و انکسار سے جھکتے رہے۔ وہ دنیا میں کمزور و بے بس تھے۔

”نوح البلاء: خطبہ جامعہ سے اقتباس“

عن ابی عبداللہ قال: مر علی بن الحسین علیہما السلام علی المجذومین و هوراکب حماره و هم یفقدون فدعوه الی الفداء فقال امانی لولائی صائم

لفعلت فلما حارالى منزله امر بطعام فضع و امران يتن قوافيه ثم دعاهم ففقدوا عنده و تفدى معهم.

”الکافی ج ۲ صفحہ ۱۲۲“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”امام علی زین العابدین علیہ السلام کا گزر جذامیوں کی جماعت سے ہوا، اس وقت آپ گدھے پر سوار تھے۔ جذامی کھانا کھا رہے تھے انہوں نے آپ کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا اگر میں حالت روزہ میں نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ضرور شرکت کرتا۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ نے ان کے لئے پر تکلف کھانا تیار کرایا۔ پھر آپ نے انہیں دعوت دی اور ان کے ساتھ آپ نے بھی بیٹھ کر کھانا تناول کیا۔“

عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال: من التواضع ان ترضی بالمجلس دون المجلس وان تسلیم علی من تلقی و ان تترك المراء و ان كنت محققا و ان لا تحب ان تحمد علی التقوی.

”الکافی ج ۲ صفحہ ۱۲۲“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”تواضع کی علامت یہ ہے کہ تم محفل کے آخری حصے میں بیٹھنے پر راضی رہو اور ہر ملنے والے کو سلام کرو اور تم حق پر ہونے کے باوجود دھت و مجاہدہ سے گریز کرو اور تمہیں اپنی پرہیزگاری کی تعریف سنا پسند نہ ہو۔“

قال عیسیٰ بن مریم للحواریین لی الیکم حاجة افصو ہالی فقالوا قفینا حاجتک یا روح اللہ فقام ففسل اقدامہم . فقالوا کنا احق بهذا منك ، فقال احق الناس بالخدمة العالم انما تواضعت ہکذا لکی ماتواضعوا بعدی فی الناس کتواضعی لکم ثم قال عیسیٰ بالتواضع تعمر الحکمة لا بالتکبر و کذلک فی السہل ینبت

لا فی الجبل.

”وسائل جلد نرس صفحہ ۵-۵“

ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا: ”تم سے مجھے ایک حاجت ہے۔“

حواریوں نے کہا: ”ہم آپ کی حاجت پوری کریں گے۔“

آپ اٹھے اور ان سب کے پاؤں دھوئے۔

حواریوں نے کہا: ”ہمارا حق بتاتا تھا کہ ہم آپ کے پاؤں دھوتے، آپ نے

یہ کیا زحمت فرمائی ہے؟“

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”میں نے اس لئے تمہارے پاؤں

دھوئے ہیں تاکہ تم بھی میرے بعد لوگوں کے پاؤں دھوؤ۔ عالم کو چاہئے کہ وہ

تواضع کی ابتدا کرے۔ میرے بعد تم بھی میری طرح سے تواضع کرنا۔“

پھر آپ نے فرمایا ”تواضع سے ہی دانش و حکمت کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے

تکبر سے نہیں۔ کیونکہ پیدلوار نرم زمین میں ہوتی ہے پہاڑ پر نہیں ہوتی۔“

تکبر و خود پسندی کی مذمت

﴿﴾ مکھی کیوں پیدا ہوئی؟ ﴿﴾

ایک دن منصور دو اشقی تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر آکر ایک مکھی بیٹھ گئی۔ منصور نے اسے اڑایا تو وہ اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر اڑایا تو وہ کسی اور جگہ بیٹھ گئی۔ منصور مکھی کو اڑا اڑا کر بہت تنگ آ گیا۔ مگر مکھی نے منصور کے جسم سے اٹھنا گوارا نہ کیا۔ منصور نے کہا: ”اگر اس وقت کوئی عالم ہمارے ملنے کے لئے موجود ہو تو اسے میرے پاس لایا جائے۔“

اتفاق سے مقالہ بن سلیمان موجود تھے، انہیں منصور کے پاس لایا گیا تو منصور نے کہا: ”ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، آپ مجھے بتائیں کہ مکھی کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟“

مقالہ نے فوراً کہا کہ: ”اللہ نے ظالم اور ستم گر لوگوں کو ذلیل کرنے کے لئے مکھی کو پیدا کیا۔“

منصور یہ جواب سن کر سخت شرمندہ ہوا۔ (تتمۃ المنتقى صفحہ ۱۱۹)

﴿﴾ شیطان کی بات سن لیں ﴿﴾

طوفان نوح کے بعد جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہِ جودی پر ٹھہر گئی تو ابلیس عین حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کئی سالوں تک کے لئے محنت و مشقت سے چھلایا آپ نے گناہ گاروں کے لئے بددعا کر کے کچھ عرصہ کے لئے مجھے آرام کا وقفہ دیا ہے۔ میں اس احسان پر آپ کا ممنون ہوں اور آپ کو اس کے بدلہ میں تین نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: ”لعین! تو میرا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا اسی لئے مجھے نفیسی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔“

اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ: ”نوح! اس لعین کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس وقت آپ کو صحیح بات بتانے کے لئے آیا ہے۔“

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: ”بیان کر! تو کیا کہنا چاہتا ہے؟“ ابلیس نے کہا: ”میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تکبر سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم کے سجدہ کا حکم دیا تھا تو میں نے تکبر کیا تھا اور سجدہ نہیں کیا تھا۔ اگر میں اس دن تکبر نہ کرتا تو بزمِ مائتکہ سے مجھے نہ نکالا جاتا اور میں لعین نہ ہوتا۔“

میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ حرص کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کے لئے ساری جنت مباح کی تھی، پوری جنت میں صرف ایک درخت ایسا تھا جس سے منع کیا گیا۔ آدم نے حرص سے کام لیا اور ممنوعہ درخت کے پاس چلے گئے اگر آدم حرص نہ کرتے تو انہیں جنت سے نہ نکالا جاتا۔

اور تمہیں تیسری فصاحت یہ ہے کہ غیر عورت کے ساتھ کبھی تھانہ بیٹھنا۔ جہاں بھی دو مرد و عورت اکیلے بیٹھے ہوں تو وہ درحقیقت اکیلے نہیں ہوتے اس مقام پر تیسرا میں ہوتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”نوح! اس لعین کی ان تینوں باتوں کو قبول کرو۔ اس کی یہ باتیں خیر خواہی پر مبنی ہیں۔“ (انوار لعناتیہ صفحہ ۸۱)

تنگ دستی بہتر ہے یا مغرور کن دولت؟

امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دولت مند شخص صاف ستھرے کپڑے پہن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ایک غریب صحابی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آیا اور اس دولت مند شخص کے قریب بیٹھ گیا۔

دولت مند نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند سے فرمایا ”اسے دیکھ کر تم نے جو اپنے کپڑے سمیٹے ہیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی غربت تمہیں چٹ جائے گی؟“ اس نے کہا: ”نہیں۔“

تو آپ نے فرمایا: ”تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت اس کے پاس چلی جائے گی؟“

اس نے کہا: ”نہیں۔“

پھر آپ نے فرمایا۔ ”جب ان دونوں میں سے ایک بھی بات نہیں ہے تو تم نے اسے دیکھ کر اپنے کپڑے کیوں سمیٹے؟“

اس نے کہا: ”یا رسول اللہ! دراصل میرا نفس لادہ برائی کو میرے لئے

زینت بنا کر پیش کرتا ہے اور نیکی کو میوہ بنا کر اس سے نفرت دلاتا ہے۔“

پھر اس دولت مند شخص نے کہا ”یا رسول اللہ! واقعی مجھ سے غلطی سرزد

ہوئی ہے میں اس کی تلافی کے لئے اس غریب کو اپنی آدمی دولت دیتا ہوں۔“

غریب نے کہا: ”مجھے منظور نہیں ہے۔“

رسول خدا نے فرمایا: ”کیا وجہ ہے تم اس کی دولت قبول نہیں کرتے؟“

غریب نے کہا: ”یا رسول اللہ! اگر میں نے اس کی دولت قبول کر لی تو میں

بھی اس کی طرح مغرور بن جاؤں گا۔“

محترم کون اور ذلیل کون؟

امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلمان فارسیؓ

کے ساتھ ایک عربی کا جھگڑا ہو گیا، عربی نے ازراہ تکبر سلمانؓ سے کہا کہ

”تیری حیثیت ہی کیا ہے؟“

یہ سن کر حضرت سلمانؓ نے فرمایا: ”اما اولیٰ واولک نطفة قدرة واما

آخری و آخرک جیمة فتنة فمن نقلت موازینہ فهو الکریم ومن خفت

موازینہ فهو اللئیم“

تیری اور میری دونوں کی لہذا جس نطفہ ہے اور تیری اور میری انتہا

بد و دار مردار ہے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا آخرت میں بھاری ہو وہ محترم اور جس کی

نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو وہ ذلیل ہے۔“

تکبر کی انتہا

جنگ بدر میں ایک مجاہد عمر بن جموح نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ عمرو بن جموح نے ابو جہل کی ران پر تلوار کا وار کیا اور ابو جہل نے اس کے بازو پر تلوار ماری جس سے صحال کا بازو کٹ گیا، مگر تھوڑی سی کھال جڑی ہونے کی وجہ سے ان کا بازو ٹٹکنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود دوز کر آئے اس وقت ابو جہل خون میں لت پت تھا۔

عبداللہ نے ابو جہل کو گرا کر اس کے سینہ پر قدم رکھا اور کہا کہ: ”اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے رسوا کیا۔“

ابو جہل نے کہا: ”تو غلط کہتا ہے خدا نے تجھے رسوا کیا ہے، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟“

عبداللہ بن مسعود نے کہا: ”آج اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہے۔“
ابو جہل نے کہا: ”ہائے میری بد نصیبی کہ ایک چرواہا میرا قاتل بن رہا ہے۔ کاش آج ابو طالب کا بیٹا مجھے قتل کرتا تو میرے لئے اعزاز ہوتا۔“

پھر اس نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ: ”میرے سینہ سے اتر جا کیونکہ تو نے ایک بلہہ وبالا مقام پر قدم رکھا ہے۔“

عبداللہ بن مسعود نے کہا: ”لہین! تیار ہو جا میں تجھے قتل کرتا ہوں۔“
یہ سن کر ابو جہل نے کہا: ”اچھا اگر یہی مقدر ہے تو پھر میری گردن کو کندھوں سے جدا کرنا تاکہ جب محمد کے سامنے ہماری برادری کے باقی سر جائیں اور میرا بھی سر جائے تو چونکہ بالآخر میں سردار ہوں، لہذا میری گردن لمبی ہونی چاہئے اور میں مقتولین میں بھی ممتاز نظر آؤں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: ”معاون! اس وقت بھی تیرے ذہن سے تکبر ختم نہیں ہوا۔ میں تیری گردن کو تیرے منہ کے پاس سے کاٹوں گا تاکہ تمام مقتولین کے سروں کی یہ نسبت تیرا سر چھوٹا نظر آئے۔“
پھر عبداللہ بن مسعود نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔
نبی کریم نے اس بدترین دشمن اسلام کے سر کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔

ایک کتا سلطان کا کھانا لے اڑا

امیر احمد بن اسماعیل سامانی اور عمرو لیث کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں امیر احمد کے پاس بارہ ہزار فوج تھی اور عمرو لیث کے پاس باقاعدہ فوج ستر ہزار تھی اور رضا کار فوج اس کے علاوہ تھی۔

آغاز جنگ سے قبل بدوچی خانہ کا سربراہ عمرو لیث کے پاس آیا اور کہا کہ: ”کھانا تیار ہے آپ پہلے کھانا کھالیں۔“

لیکن عمرو لیث نے جسے اپنی فوج کی کثرت پر گھمنڈ تھا کہا کہ ”دشمن کے پاس تھوڑی سی فوج ہے۔ پہلے ہم اسے شکست دیں گے اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور امید ہے کہ اس جنگ کا فیصلہ ایک یا دو گھنٹوں میں ہو جائے گا۔“

صاف تیار ہوئیں جنگ شروع ہو گئی۔ اتفاق سے عمرو لیث جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا بے قابو ہو گیا اور دوڑتے دوڑتے امیر احمد سامانی کے لشکر میں پہنچ گیا۔ امیر احمد سامانی کی فوج نے عمرو لیث کو گرفتار کر لیا اور جب عمرو لیث کی فوج

غرور کا سر نیچا

۳۶۵ ہجری میں سلطان الپ ارسلان نے پورے ایران کو فتح کیا۔ ایران کے بعد اس نے ماوراء النہر کو فتح کرنے کا قصد کیا اور دریائے جیحون عبور کر کے اس نے قلعہ رزم کو فتح کیا۔

اس قلعہ کے محافظ یوسف کو تو الپ خوارزمی کو سلطان ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے یوسف سے چند سوالات کئے۔ جن کے جواب یوسف نے بڑی تیزی اور سختی سے دیئے۔

سلطان نے حکم دیا کہ اس گستاخ کو سخت ترین سزا دی جائے تاکہ اس کا دماغ صحیح ہو جائے۔

اتنے میں یوسف کو تو الپ نے اپنے موزے سے ایک چھری نکال کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے محافظ اس کو روکنے کے لئے آگے بڑھے تو سلطان نے تمام محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اسے کچھ نہ کہیں۔ سلطان اکیلا ہی اس سے نمٹ لے گا۔ سلطان کو اپنی تیر اندازی پر بڑا ناز تھا اور وہ دشمن کو اہمیت دینے پر تیار نہ تھا۔ سلطان نے اپنی ترکش سے تین تیر نکال کر اس کی طرف پھینکے مگر تینوں تیر خطا گئے۔ اتنے میں سلطان نے چاہا کہ تخت چھوڑ کر اس سے دست بردست لڑائی کرے۔ تخت سے اترنے لگا کہ اس کا قمیض تخت کے ایک سرے میں پھنس گیا اتنے میں یوسف کو تو الپ نے قریب ہو کر اس پر اپنی چھری کے پے درپے وار کئے۔ سلطان کا وقار سعد الدولہ سلطان کو چانے کے لئے آگے بڑھا تو اسے بھی چھری کے زخم لگے۔ چند سپاہیوں نے بڑھ کر مشکل سے یوسف کو تو الپ کو پکڑا۔ لیکن وہ سلطان کو شدید زخم لگا چکا تھا۔

نے اپنے بادشاہ کی گرفتاری کی خبر سنی تو انہوں نے میدان جنگ سے فرار اختیار کیا۔ امیر احمد نے حکم دیا کہ عمرو لیث کو گھوڑوں کے اصطلیل میں قید کر دیا جائے۔ پورے تین دن تک امیر احمد سامانی کی فوج جشن فتح مناتی رہی اور عمرو لیث کو کسی نے ایک لقمہ تک کھانے کے لئے نہ دیا۔

تیسرے دن عمرو لیث کو اپنا ایک پرانا نوکر نظر آیا جو کہ اسے چھوڑ کر امیر سامانی کے دربار سے ملحق ہو چکا تھا۔ عمرو لیث نے اسے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، تین دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے لئے کھانا لادو۔ کچھ دیر بعد وہ نوکر ایک دیکھی اصطلیل میں لے کر آیا اور دیکھی زمین پر رکھ کر کہا کہ ابھی کچھ دیر انتظار کریں میں کوئی برتن لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نوکر برتن لینے چلا گیا۔

اتنے میں ایک کتا آیا اور دیکھی میں منہ مار کر کھانا کھانے لگا۔ جب تھوڑی دیر بعد نوکر آیا اور کتے کو دیکھی میں منہ مارے کھانا کھاتے دیکھا تو اس نے زور سے کتے کو ڈانٹا۔ کتے نے دیکھی سے منہ نکال کر بھاگنا چاہا تو اس کا منہ دیکھی میں پھنس گیا اور وہ دیکھی کو لے کر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمرو لیث ہنسنے لگا۔

امیر اصطلیل نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا۔ ”میں گردش ایام اور انقلاب زمانہ کو دیکھ کر نہیں رہا ہوں تین روز قبل ہمارے پاس باورچی خانہ کے سامان سے تین سولونٹ لدے ہوئے تھے اور آج حالت یہ ہے کہ تین دن کے بعد کھانا آیا اور اسے بھی کتے لے لیا۔“

اس دن سلطان نے مرنے سے پہلے کہا: ”آج کا دن میرے لئے بڑا
منحوس تھا کیونکہ اس دن میں دو مرتبہ خودپسندی کا شکار ہوا۔ جب کہ آج سے
پہلے میرے اندر اتنی خودپسندی کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ میں اس
وقت خودپسندی کا شکار ہوا جب میں نے نیلے پر کھڑے ہو کر اپنی فوج کا معائنہ کیا
تو میں نے بڑے غرور سے کہا کہ دنیا میں مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میں
ناقابلِ تغیر ہوں اور پھر دوسری مرتبہ میں اس وقت خودپسندی میں مبتلا ہوا
جب یوسف کو توال نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے اپنی قوت بازو پر اعتماد کرتے
ہوئے اپنے محافظوں کو روک دیا اور کہا کہ میں تن تنہا اس سے نمٹنے کی صلاحیت
رکھتا ہوں۔ چنانچہ یہی خودپسندی مجھے لے ڈولی۔“

آخر کار اس ضربت کی وجہ سے سلطان کی وفات ہو گئی اور اسے شہر مرو میں
دفن کیا گیا۔ (اخلاق رومی صفحہ ۳۰۵)

سلیمان بن عبد الملک اموی کی خودپسندی

سلیمان بن عبد الملک بنی امیہ کا بڑا صاحب جبروت بادشاہ گزرا ہے۔ ایک
دفعہ اس نے جمعہ کے دن نیا لباس پہنا، اپنے آپ کو معطر کیا اور اپنے عماموں کا
صندوق منگوا لیا۔ ایک عمامہ کو دیکھتا پھر ناپسند کر کے اسے رکھ دیتا۔ پھر دوسرا
عمامہ دیکھتا اور اسے بھی اپنے شایان شان نہ سمجھتے ہوئے رکھ دیتا آخر سینکڑوں
عماموں میں سے اس نے ایک دستار پسند کی اور اسے مرہ پہ باندھا۔

غرض یہ کہ پوری طرح جوج و جوج کر بڑے کروفر سے منبر پر آیا اور دوران
خطبہ اس نے کہا: ”انا الملک الشاب السید المہاب الکریم الوہاب“ میں

نوجوان بادشاہ ہوں اور ہیبت والا سردار ہوں اور میں سخی اور بے حد بخشنے والا
ہوں۔“

اس کے بعد اس نے خطبہ ختم کیا اور اپنے محل میں واپس آ گیا۔ محل میں
اسے ایک کنیز نظر آئی تو اس نے کہا کہ: ”بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟“
کنیز نے کہا: ”اگر شاعر کا یہ شعر نہ ہوتا تو آپ لاجواب تھے۔“
سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا: ”کونسا شعر؟“
کنیز نے یہ شعر پڑھا:

الت نعم المتاع لو كنت بقی

غیر ان لابقاء لللسان

اگر تو باقی رہنے والا ہوتا تو تو اچھی جنس اور اچھا سرمایہ تھا۔ مگر افسوس کہ
انسان کو بھلا میر نہیں ہے۔

کنیز کی زبانی یہ شعر سن کر سلیمان رونے لگا اور دن بھر روتا رہا۔ شام کے
وقت سلیمان نے کہا کہ فلاں کنیز کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ وہ کنیز حاضر ہوئی
تو سلیمان نے کہا کہ: ”تو نے یہ شعر کیوں پڑھا؟“

کنیز نے بتایا کہ: ”آج پورا دن میں نے تو آپ کو دیکھا تک نہیں، میں یہ
شعر کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ دوسری کنیزوں نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کی۔“
سلیمان نے گھر میں موجود تمام کنیزوں کو بلایا۔ سب نے وہ شعر سنانے
سے انکار کر دیا۔ سلیمان سمجھ گیا یہ دراصل ایک نجیبی اشارہ تھا۔

اس واقعہ کے چند روز بعد سلیمان مر گیا۔ اس کی بادشاہت اسے موت سے
نہ چھانسی۔

خود پسندی کی وجہ سے لشکر اسلام کو شکست ہوئی

جب رسول خدا نے مکہ فتح فرمایا تو بنی ہوازن کو کسی نے اطلاع دی کہ رسول خدا ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ بنی ہوازن کے سردار، مالک بن عوف کے پاس آئے اور کہا: ”ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، آپ اپنے جنگی تجربوں کو کام میں لا کر مسلمانوں کو شکست دیں۔“

مالک بن عوف نے کہا: ”تم لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آؤ اور اس کے ساتھ اپنے مال مویشی اور سونا چاندی بھی گھروں سے لے کر نکلو تاکہ تمہیں پیچھے کا کوئی خیال نہ رہے اور یکسوئی سے جنگ لڑ سکو۔“

بنی ہوازن اپنے بیوی بچوں اور تمام مویشیوں اور سونا چاندی کو ساتھ لے کر اس کے پاس آئے اور اپنا لشکر لے کر اوطاس کے مقام پر جمع ہوئے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی ہوازن کے اجتماع کی خبر ہوئی تو آپ نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور ان سے نصرت و نصیحت کا وعدہ فرمایا۔ بارہ ہزار کا لشکر اس جنگ کے لئے روانہ ہوا، جن میں دس ہزار وہ صحابہ تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے اور دو ہزار مکہ کے جوان تھے۔

آپ نے ایک بڑا علم تیار کیا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو سالار لشکر بنایا۔ جب مسلمانوں نے اپنی جمعیت کو دیکھا تو اپنی کثرت پر ناز کرنے لگے اور حضرت ابو بکر نے جب لشکر اسلام کی کثرت کو دیکھا تو کہا: ”لن نغلب الیوم“ آج ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔“

ادھر مالک بن عوف نے بنی ہوازن کو کہا کہ ”وہ اپنے بیوی بچوں کو آخر میں رکھیں اور خود پہاڑ کے دونوں اطراف دروں میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور صبح

دم جیسے ہی محمد کا لشکر درے میں نمودار ہو تو اس پر اچانک ہلتے بول دیں۔ اس طرح سے تم کامیابی حاصل کر لو گے کیونکہ تم سے پہلے محمد کی کسی جنگجو قبیلہ سے ٹکرا بھی نہیں ہوئی۔“

پیغمبر اسلام نے فجر کی نماز ادا کی اور اوطاس کے درہ میں داخل ہوئے۔ درہ کے ساتھ والی زمین نشیب کی طرف مائل تھی۔ اسلامی لشکر کی اگلی صف میں ابو سلیم کے جوان تھے۔ اسلامی لشکر جیسے ہی درہ میں داخل ہوا تو ابو ہوازن کے جوانوں نے ان پر یکایک حملہ کر دیا۔ ابو سلیم گھبراہٹ کے عالم میں میدان سے بھاگے۔ انہیں بھاگتا دیکھ کر باقی لشکر بھی بھاگ اٹھا اور حالت یہ ہو گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف دس جاہل باقی رہ گئے۔

رسول خدا نے لشکر اسلام کو آوازیں دیں کہ مجھے چھوڑ کر مت بھاگو۔ اسلام کی ایک مجاہدہ نسیم بنت کعب مازینہ دوڑنے والوں کے سر پر خاک ڈالتی اور کہتی: ”ہمردو کہاں جا رہے ہو؟“

حضرت عمر کو بھاگتا دیکھ کر نسیم نے کہا: ”عمر تجھ پر افسوس! تو کیا کر رہا ہے؟“

حضرت عمر نے کہا: ”یہ سب اللہ کا امر ہے۔“ رسول خدا کے پاس صرف دس مجاہدہ رہ گئے ان میں سے نو بنی ہاشم سے تھے اور ایک ایمن بن ام ایمن تھا جو اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ حضرت علی بڑی دلیری سے دشمنوں کے حملے پست کرتے رہے۔

رسول کریم نے عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ تمہاری آواز بہت اونچی ہے تم ان الفاظ سے لوگوں کو بلاؤ: ”یا اصحاب سورۃ البقرۃ ویا اصحاب بیعة

الشجرة الى اين نفرون“ اے سورہ بقرہ کے اصحاب اور درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والو! تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو اور تم نے جو وعدہ کیا تھا اپنے اس وعدہ کو یاد کرو۔“

وہ وقت رسالت مآب کے لئے انتہائی پریشانی کا وقت تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا: ”پروردگار! ہم تیرے لئے ہے اور تو ہی ہمارا مددگار ہے اور ہماری فریاد سننے والا تو ہی ہے، خدایا! اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔“

عباس نے اپنے سینہ کی پوری قوت سے آواز دی۔ آواز سن کر مسلمان آہستہ آہستہ واپس آنے شروع ہوئے۔ شرم کی وجہ سے رسول خدا کے گرد اکٹھے نہ ہوئے اور علم کے نیچے آکر جنگ شروع کر دی۔

رسول کریم نے عباس سے پوچھا: ”جنگ کرنے والے کون ہیں؟“

تو عباس نے بتایا کہ یہ انصار ہیں۔

پیغمبر اسلام نے رکابوں پر کھڑے ہو کر جنگ کا منظر دیکھا تو فرمایا ”الان حمى الوطيس“ اب جنگ کی بھٹی گرم ہوئی اور اسی جنگ میں آپ نے یہ رجز پڑھے:

انا النبى لا كذب

انا ابن عبدالمطلب

میں سچا نبی ہوں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

کچھ دیر بعد ہوازن کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا، اسی جنگ میں بنی ہوازن کے چھ ہزار افراد جن میں عورتیں بھی شامل

تھیں، گرفتار ہوئے اور چالیس ہزار عکریاں اور چوبیس ہزار اونٹ اور چار ہزار اوقیہ سونا مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے اس غرور کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: ”لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرة ویوم حنین اذ اعجبتکم کثر تکم فلم تعن عکم سیننا وضائق علیکم الارض بما رحبت نم ولینم مدبورین۔ اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پشت دے کر بھاگ نکلے۔“

رسول خدا نے جنگ حنین کے غنائم اہل مکہ کی تالیفِ قلوب کے لئے مکہ والوں میں ہی تقسیم کر دیئے۔ انصار مدینہ میں سے چند لوگوں کو یہ رویہ ناگوار گزرا۔ پیغمبر اسلام کو انصار مدینہ کی اس ناراضگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا: ”مدینہ کے تمام انصار جمع ہو جائیں۔“

آپ کے حکم کے تحت تمام انصار جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا: ”اے گروہ انصار! میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تم میرے سوالوں کا جواب دو۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا؟“

انصار نے کہا: ”بے شک یہ خدا اور رسول کا ہم پر احسان ہے۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”کیا تم گمراہ نہ تھے اللہ نے تمہیں میرے ذریعہ سے ہدایت دی؟“

انصار نے کہا: ”بے شک یہ خدا اور رسول کا احسان ہے۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”اُر تم چاہو تو تم بھی مجھے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ محمد! تیری قوم نے تجھے مکہ سے نکال دیا تھا ہم نے تجھے پناہ دی، تو خوف زدہ ہو کر ہمارے پاس آیا ہم نے تجھے امن دیا، لوگوں نے تجھے بھڑایا ہم نے تیری تصدیق کی۔“

آپ کے یہ جملے سن کر انصار کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور عرض کی ”یا رسول اللہ! چند ناانوں کی اس حرکت پر ہم شرمندہ ہیں اور اُر آپ پسند کریں تو ہم رامل بھی اہل مکہ میں تقسیم کر دیں ہم اعتراض نہیں کریں گے۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”مگر وہ انصار! کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بحریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر چلو۔“

انصار نے کہا: ”ہم راضی ہیں آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔“

اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی: ”اللهم اغفر للانصار ولا بناء الانصار ولا بناء ابناء الانصار“ خدایا! انصار کو معاف فرما، انصار کی اولاد کو معاف فرما اور انصار کی اولاد کی اولاد کو معاف فرما۔ (نقل از تفسیر برہان و شجرہ طویلی)

نسلِ یوسف میں نبوت کیوں نہ چلی؟

جب حضرت یوسف نے اپنا پیرا بہن اپنے والد بزرگوار کے پاس روانہ کیا اور اس سے ان کی کھوئی ہوئی بینائی بوٹ آئی تو آپ نے اپنے خاندان کو مصر روانگی کا حکم دید۔ پورا خاندان یوسف گم گشتہ سے ملنے کے لئے بے چین تھا۔ چنانچہ یہ قافلہ کنعان سے روانہ ہوا اور تین ہی سے سفر کرتا ہوا نویں دن مصر پہنچا۔

حضرت یوسف اپنے ساتھ شکر لے کر والدین کے استقبال کے لئے روانہ ہوئے، حضرت یعقوب نے جب دور سے یہ اڈا شکر دیکھا تو پوچھا: ”کیا یہ فرعون مصر آرہا ہے؟“

بچوں نے جواب میں کہا: ”نہیں یہ فرعون مصر نہیں بلکہ آپ کا بیٹا یوسف آرہا ہے۔“

حضرت یوسف نے ارادہ کیا کہ پیادہ ہو کر باپ کا استقبال کریں اور زمین ادب کا پورہ لیں لیکن جب انہوں نے اپنے امین مملکت کو دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی۔

باپ بیٹا گلے ملے، بچر کی گھڑیاں دور ہوئیں۔ پھر جناب جبرئیل امین حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہا ”تم نے ہمارے بندہ کی تعظیم میں کوتاہی کیوں کی؟ اور اس کے لئے تم نے اپنی سواری سے اترا کیوں گوارا نہ کیا؟ اب اپنا ہاتھ کھولو۔“

جیسے ہی حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ کھولا تو انھیں نور خارج ہوا۔

حضرت یوسف نے جبرئیل امین سے پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“

انہوں نے کہا: ”تم اپنے باپ کی تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہوئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ سے نور نبوت کو خارج کر دیا اور اس کے جائے اللہ نے لاوی کی اولاد میں سلسلہ نبوت کو جاری فرمایا۔“

اللہ تعالیٰ کو لاوی کی دو لوائیں پسند آئی تھیں۔ پہلی ادا تو یہ تھی کہ جب بھائیوں نے یوسف کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو انہوں نے بھائیوں کو قتل یوسف سے باز رکھا تھا اور کہا تھا کہ اس نہ جائے انہیں کسی ویران کنوئیں میں ڈال دو۔

ان کی دوسری ادا جو اللہ کو پسند آئی وہ یہ تھی کہ جب حضرت یوسف نے بن یامین کو اپنے پاس روک لیا تھا تو انہوں نے گھر واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔

حضرت موسیٰ کا سلسلہ نسب تین پشتوں کے بعد لاوی سے جا ملتا ہے۔ چنانچہ اسی خود پسندی اور غرور کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔

﴿یوسف اتنی کم قیمت میں کیوں بچے؟﴾

جب حضرت یوسف کنسن تھے اور اپنے باپ کے گھر میں تھے تو انہوں نے ایک دن آئینہ میں اپنی شکل و صورت کو دیکھا تو اپنی ہی صورت پر فریفت ہو گئے اور دل میں کہنے لگے اگر مجھے غلام بنا کر فروخت کیا جائے تو میری قیمت کوئی ادا نہیں کر سکے گا۔

اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کا یہ ناز پسند نہ آیا اور جب بھائیوں نے انہیں مصری تاجر بقلوص کے ہاتھوں فروخت کیا تو اس نے بائیس درہم قیمت کے طور پر ادا کئے تھے اور ان کو خریدنے کا اسے چنداں شوق نہ تھا۔

”وشر وہ بئمن بئس دراهم معدودة وکانوا فیه من الزاہدین“

(بخاری انوار جلد ۱۲ صفحہ ۲۵۲، نزہۃ المجالس جلد ۱ صفحہ ۱۱۱)

﴿خسر پرویز تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا﴾

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سلاطین و امراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے تھے ان میں خسر پرویز بھی شامل تھا۔

خسر پرویز ان دنوں ایران کا بادشاہ تھا۔ عبد اللہ بن حذافہ رحمۃ اللعالمین کا خط لے کر اس کے پاس گئے۔

خسر پرویز نے مترجم کو بلا کر خط کا ترجمہ کر لیا تو خط کا سرنامہ کچھ یوں تھا: ”من محمد رسول اللہ الی کسری عظیم فارس“ محمد رسول اللہ کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف۔ سرنامہ دیکھ کر اسے غصہ آیا کہ رسول خدا نے اپنا نام میرے نام سے پہلے کیوں تحریر کیا۔ چنانچہ اس نے حضور اکرمؐ کے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور قاصد کو کوئی جواب نہ دیا۔

جب قاصد نے واپس آکر حضور اکرمؐ کو اس کے اس نازیبا طرز عمل کی خبر دی تو آپؐ نے فرمایا ”اللہم فرق ملکہ“ خدایا! جس طرح سے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کئے اسی طرح تو اس کے ملک کے ٹکڑے کر دے۔“

خسر پرویز نے یمن کے گورنر باذان کو خط لکھا کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ دو طاقت ور آدمی بھیج کر اسے گرفتار کر کے ہمارے پاس روانہ کر دو۔

باذان نے باجو یہ اور فرخسرہ نامی دو آدمیوں کو گرفتاری کے لئے مدینہ روانہ کیا۔ دونوں افراد مدینہ آئے انہوں نے اپنے بازؤں پر سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے اور زرین کمر بند کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مزین کیا ہوا تھا اور داڑھی موٹری ہوئی تھی اور موٹھیں رکھی ہوئی تھیں۔

رسول خداؐ نے ان کی شکلیں دیکھ کر نفرت کا اظہار فرمایا اور کہا: ”ویلکما من امرکما بہذا“ تم پر وائے ہو تمہیں کس نے اس کا حکم دیا ہے؟“

انہوں نے کہا کہ: ”ہمارے پروردگار کسریٰ نے ہمیں داڑھی منڈوانے اور

موتیوں پر جانے کا حکم دیا ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”میرے پروردگار نے مجھے موتیوں پر جانے اور واپسی رکھنے کا حکم دیا ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”اچھا آج رات تم ہمارے ہاں آرام کرو۔ ہم تمہیں کل اس کا جواب دیں گے۔“

جب وہ دوسری صبح کو آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ”تم باذان سے جا کر کہنا کہ کل رات سات بجے میرے پروردگار نے اس کے پروردگار کسریٰ کو اس کے بیٹے شیروہ کے ذریعہ سے قتل کر دیا ہے اور ہم عنقریب ان کے ملک کو فتح کریں گے اور اگر تو اپنے عمدہ پر قائم رہنا چاہتا ہے تو ایمان لے آ۔“

یہ واقعہ جمادی الاول کی دس تاریخ کو منگل کی رات صبح کو پیش آیا۔ باذان کے نمائندوں نے کانڈ پر وقت دن اور تاریخ لکھ لی اور یمن واپس چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد شیروہ کا خط باذان کو ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے چند جرائم کی وجہ سے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کر دیا ہے اور میں نے اسے قتل کر کے اقتدار سنبھال لیا ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس شخص نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔

باذان اور اس کے نمائندوں نے جب خسرو پرویز کی موت کی گھڑی معلوم کی تو وہ وہی تھی جس کی حضور اکرمؐ نے انہیں خبر دی تھی۔ یہ سن کر باذان اور بہت سے دوسرے اہل یمن مسلمان ہو گئے۔ (روضة السقا)

جب اسلامی افواج کے ہاتھوں یزدگرد شاہ ایران کو شکست ہوئی تو اس کی بیٹی گرفتار ہو کر مدینہ آئی۔ حضرت عمرؓ نے چاہا کہ اس کے منہ سے نقاب ہٹا کر

اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس وقت اس نے اپنے دادا خسرو پرویز کو یاد کر کے فارسی زبان میں کہا: ”صورت پرویز سیاہ باہر نامزد رسول خدا را پارہ نمیزد و دخترش پنخس وضعی دچار نمشد“ پرویز کی صورت سیاہ ہو جائے اور وہ رسول خدا کے خط کو چاک نہ کر تا تو آج اس کی بیٹی کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔“

حضرت عمرؓ نے سمجھا کہ قیدی عورت مجھے گالیاں دے رہی ہے یہ سوچ کر انہوں نے اسے مارنے کے لئے تازیانہ اٹھایا تو حضرت امیر المؤمنینؓ نے فرمایا کہ: ”آرام سے بیٹھے رہو، اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا ہے، اپنے دادا کو بد عادی رہی ہے۔“

پھر جب حضرت عمرؓ نے اس کے فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت علیؓ فرمایا: ”ان بیات الملوك لاتناع ولو كانوا كفارا“ بادشاہ کی بیٹیوں کو فروخت نہیں کرنا چاہئے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ انہیں چنانچہ کا حق دیا جائے وہ جسے پسند کریں ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے اور ان کا حق مہر ان کے بیت المال کے وظیفہ سے کاٹ لیا جائے۔

جب شربانو کو حق اختیار ملا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا: ”اگر مجھے انتخاب کا حق حاصل ہے تو میں اس بدر منیر کا اختیار کرتی ہوں۔“

چنانچہ ملی شربانو کا عقد امام حسین علیہ السلام سے کر دیا گیا اور ان سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ (نقل از ریاض الصمد جلد ۳ صفحہ ۱۳)

الیسی غلبہ کا سبب

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ الیسی ان کے پاس آیا اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔

حضرت موسیٰ نے پوچھا: ”تو کون ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”میں الیسی ہوں۔“

حضرت موسیٰ نے فرمایا: ”خدا تجھے کسی کامیاب قرار نہ دے۔“

الیسی نے کہا: ”اللہ کے نزدیک آپ کا بڑا مقام ہے اس لئے میں آپ کو

سلام کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔“

حضرت موسیٰ نے فرمایا: ”اچھا مجھے یہ تو بتا کہ وہ کونسا گناہ ہے جس کی

وجہ سے تو لوگوں پر غالب آجاتا ہے اور لوگ تیرے قابو میں آجاتے ہیں؟“

الیسی نے کہا: ”حضرت! جب کوئی شخص اپنے آپ کو چھہ سمجھنے لگتا ہے

اور اس کے ذہن میں اتنا پرستی اور تکبر پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً میرے قبضہ اختیار

میں آجاتا ہے۔ وہی لوگ میرا شکار ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں

اور اپنے چھوٹے سے کام کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو ہلکا محسوس

کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑی آسانی سے میرے جال میں پھنس جاتے ہیں۔“

اس داستان کے آخر میں پیغمبر خدا نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد

کو وحی فرمائی ”یا داؤد بشر المدینین و اندر الصدیقین“ داؤد! گناہگاروں کو

میری رحمت کی بشارت دو اور نیک لوگوں کو میرے عذاب سے ڈراؤ۔“

حضرت داؤد نے پوچھا: ”خدا یا گناہگاروں کو میں کیسے بشارت دوں اور

نیک لوگوں کو میں کیسے ڈروں؟“

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یا داؤد بشر المدینین انی اقبل التوبۃ واعفوعن

الذنب وانذر الصدیقین الایعجبوا باعمالہم فانہ لیس عبدانصبہ للحساب

الاهلک“ داؤد! گناہگاروں کی بشارت دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، گناہ معاف

کرتا ہوں اور صدیقین کو ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال پر ناز نہ کریں کیونکہ میں نے جسے

بھی مقام حساب میں کھڑا کیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔“ (سفینۃ البحار جلد ۲ صفحہ ۱۶۲)

خود پسندی کتنی بڑی لعنت ہے

انس بن مالک کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات

میں ہم ایک شخص کی عبادت سے بڑے متاثر ہوئے ہم نے اس کا نام اور اس کی

عبادت کی کیفیت کو حضور اکرم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے اس سے لعلی کا

اظہار کیا۔ پھر ہم نے اس کی شکل و صورت بیان کی تو پھر بھی حضور اکرم نے

ات پچاننے سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں وہ شخص نمودار ہوا تو ہم نے کہا:

”یا رسول اللہ! وہ شخص یہ ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”تم تو ایسے شخص کی تعریف کر رہے تھے جس کی پیشانی

پر الیسی کی مہر لگی ہوئی ہے۔“

اتنے میں وہ شخص ہمارے قریب سے گزرا لیکن اس نے ہم پر سلام نہ کیا۔

پیغمبر اکرم نے اسے فرمایا: ”تجھے خدا کی قسم سچ بتانا جب تو اس گروہ سے

گزر رہا تھا تو تو نے اپنے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ان میں سے مجھ سے کوئی بھی

بچر نہیں ہے۔“

اس نے جواب دیا: ”صحیح ہے۔“ پھر وہ نماز کے لئے مسجد میں چلا گیا۔
پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ”کوئی ہے جو اسے جا کر قتل کر دے؟“

حضرت ابو بکرؓ نے کہا: ”یا رسول اللہ! میں جا کر اسے قتل کرتا ہوں۔“
تکوار اٹھا کر مسجد میں گئے تو اسے نماز پڑھتے دیکھا۔ دل میں کہا کہ رسول خداؐ تو
نمازیوں کے قتل سے ہمیں منع کرتے ہیں تو اس صورت میں بھلا اسے میں کیسے
قتل کروں۔ وہ آپؐ کے پاس آئے اور اپنی مجبوری بیان کی۔
آپؐ نے پھر فرمایا: ”کوئی ہے جو اسے قتل کرے؟“

حضرت عمرؓ نے کہا: ”میں اسے قتل کروں گا۔“ تکوار لے کر مسجد میں
گئے تو اسے حالت سجدہ میں پایا۔ دل میں کہنے لگے کہ ابو بکرؓ مجھ سے بہتر ہیں،
جب انہوں نے اسے نمازی سمجھ کر قتل نہیں کیا تو میں اسے کیوں قتل کروں؟
یہ سوچ کر وہ بھی واپس آئے اور حضور کریمؐ کے سامنے اپنی مجبوری بیان کی۔

آپؐ نے پھر فرمایا: ”کوئی ہے جو اسے قتل کرے؟“
حضرت علیؓ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! میں اسے قتل کرتا ہوں۔“
آپؐ نے فرمایا: ”اگر وہ تمہیں ملا تو قتل کرو گے۔“

حضرت علیؓ تکوار لے کر مسجد میں گئے لیکن وہ شخص مسجد میں موجود نہ
تھا۔ حضرت علیؓ رسول خداؐ کی خدمت آئے اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! وہ
شخص میرے جانے سے پہلے ہی کہیں نکل گیا تھا۔“

آپؐ نے فرمایا: ”اگر آج وہ قتل ہو جاتا تو میری امت کے دو افراد میں
کبھی اختلاف نہ ہوتا۔“

علامہ امینیؒ مرحوم لکھتے ہیں کہ وہ شخص ”ذوالنذیہ“ تھا جو جنگ نہروان کا

بانی تھا اور مولا علیؓ علیہ السلام نے اسے جنگ نہروان میں قتل کیا تھا۔

ایک گزارش

ایک اچھے معاشرہ کا قیام باہمی محبت و الفت اور ہمدردی کی وجہ سے ہوتا
ہے۔ جس معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں اور دکھ سکھ میں
ایک دوسرے کے کام آتے ہوں تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن جاتا ہے اور جہاں
غرور و تکبر پیدا ہو جائے اور افراد اپنے آپ کو بلند و بالا خیال کرنے لگیں تو وہ
معاشرہ زوال پذیر کھلتا ہے۔ حسن معاشرت کے لئے باہمی احترام کی اشد
ضرورت ہوتی ہے لیکن تکبر ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے وجود میں آتے ہی
احترام کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور بیسیں سے فرعونیت جنم لیتی ہے۔ جیسا
کہ اللہ نے فرعون کا قول نقل کیا ہے: ”انؤمن بشترین مثلنا وقومہماننا
عابدون“ کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لائیں جب کہ ان کی قوم ہماری
عبادت و خدمت کرتی ہے۔“

تکبر و خود پسندی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لئے حبیبؐ خدا نے
ارشاد فرمایا ”لا یدخل الجنة من کان فی قلبہ مثقال حبة من خردل من
کبر“ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے: ”تلك الدار الآخرة
نجعلها للدين لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين“ ہم
جنت کی ہمیشہ رہنے والی منزل انہیں دینگے جو اس دنیا میں برتری اور تکبر اور فساد
فی الارض کے خواہش مند نہیں ہونگے اور نیک انجام تو پر ہیزگاروں کیلئے ہے۔“

شیخ طبری نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں اسی آیت کے ضمن میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے "ان الرجل ليععبه شراك نعله فيدخل في هذه الامة" سبھی کبھار انسان کو اپنی جوتی کا تسمہ بھی اچھا لگتا ہے تو وہ اس کے ذریعہ سے تکبر کرنے لگتا ہے ایسا شخص بھی اس آیت میں شامل ہے۔"

خداوند عالم قیامت کے دن متکبرین کو ذلیل فرمائے گا جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا "ان المتكبرين يجعلون في صورة الزرير يطاهم الناس حتى يفرع الله من الحساب" تکبر کرنے والے قیامت کے روز ذرات کی شکل میں محسوس ہوں گے اور حساب کے ختم ہونے تک لوگ انہیں اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔"

چند روایات

عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمضي وانا معه ادا جماعة فقال ما هذه الجماعة فقالوا محنون يحق فقال رسول الله هذا المتبلى ولكن المحنون الذي يحطوب يديه ويتبحر في مشيه ويحرك منكبيه في موكبه يتمنى على الله جنته وهو مقيم على معصيته

"متدرک الوسائل جہد نفس صفحہ ۳۲۹"

علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک گروہ ایک مقام پر جمع تھا۔

آپ نے فرمایا: "یہ گروہ کیوں جمع ہے؟"

لوگوں نے بتایا: "ایک پاگل کو دیکھ رہے ہیں جو روحانی اذیت میں مبتلا ہے۔"

آپ نے فرمایا "یہ مریض ہے۔ پاگل وہ ہے جو راہ چلتے اپنے ہاتھ سے حرکات کرے اور متکبرانہ چال چلے اور جس بزم میں بیٹھا ہو اس میں اپنے کندھوں کو حرکت دے اور اللہ کی نافرمانی پر قائم رہ کر بھی اس سے جنت کی آرزو کرے۔"

عن محمد بن عمرو بن یزید عن ابیہ قال قلت لابی عبداللہ انی اکل الطعام الطیب واشم الريح الطيبة واركب الدامة الفاراهة وبتعمی الغلام فتیری فی ہدا شینا من التحریر فلا افعلہ فاطرق ابو عبداللہ ثم قال انما الجبار الملعون من عمص الناس وحهل الحق قال عمر فقلت اما الحق فلا احمله و الغمص لا ادري ما هو قال من حقوا الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار.

"کافی جلد ۲ صفحہ ۳۱۱"

راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ "میں اچھا کھانا کھاتا ہوں اور عمدہ خوشبو استعمال کرتا ہوں اور آراستہ سواری پر بھی سوار ہوتا ہوں اور میرے پیچھے غلام بھی چلتا ہے، تو کیا ایسی زندگی کو آپ تکبر سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر میں اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لے آؤں؟"

امام جعفر صادق کچھ دیر سر جھکائے خاموش رہے پھر فرمایا "جبار ملعون ہے وہ شخص جو 'عمص' سے کام لے اور حق شناس نہ ہو۔"

راوی نے کہا: "مولا! میں حق کو تو پہچانتا ہوں، لیکن 'عمص' سے واقف نہیں ہوں۔"

آپ نے فرمایا: "عمص سے مراد یہ ہے کہ تو لوگوں کو حقیر جانے اور ان سے تکبر کرے ایسا شخص جبار ہوتا ہے۔"

عن حفص بن غیاث عن ابی عبداللہ قال ومن ذهب الی ان له علی الاخر فضلا

فهو من المتكبرين فقلت انما يرى ان له عليه فصلا بالعاقبة اذراه مرتكبا
للمعاصي فقال هيات هيات نلقه ان يكون عفرله مابقى وانت موقوف
تحاسب۔

”جلد ۱۵ حدیث کبر“

حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ
سمجھے کہ اسے دوسرے پر فضیلت حاصل ہے تو ایسا شخص متکبرین میں سے ہے۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا ”مولا! اگر کوئی شخص دوسروں کو گناہوں میں
جتلا دیکھ کر اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھے تو کیا وہ بھی متکبرین میں سے ہے؟“
امام نے فرمایا: ”ممکن ہے جسے وہ حقیر سمجھ رہا ہے وہ کل کوئی ایسا عمل کرے جس
سے اسکے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ ابھی حساب و کتاب میں ہی مصروف ہو۔“

عن ابی عبداللہ قال اتی عالم عابدا فقال له کیف صلاتك فقال مثلی یسنل عن
صلا تہ؟ وانا اعبدا للہ منذ کذا او کذا قال فکیف بکانتک؟ قال ابکی حتی تجری
دموعی فقال له العالم فن صحکک وانت حائف الفصل من بکانتک؟ قال ابکی
حتى تجری دموعی فقال له العالم فان صحکک وانت حائف الفصل من بکانتک
وانت مدل ان المدل لا یصعد من عملہ شیئ.

”اکافی جلد ۲ صفحہ ۳۱۳“

امام جعفر صادق نے فرمایا ایک عالم کسی عابد کے پاس گیا اور پوچھا: ”تمہاری نماز
پڑھنے کی کیفیت کیسی ہے؟“

عابد نے ناراض ہو کر کہا: ”عجیب ستم ہے کہ مجھ جیسے شخص سے اس کی نماز کے
متعلق سوال کیا جائے جبکہ میں اتنے سالوں سے مسلسل عبادت کر رہا ہوں۔“

پھر عالم نے اس سے پوچھا: ”خوف خدا میں تو کتنا روتا ہے؟“

عابد نے کہا: ”میں اتنا روتا ہوں کہ میرے آنسو میرے رخساروں پہ بہنے لگتے
ہیں۔“

یہ سن کر عالم نے کہا: ”اگر تو خوف خدا رکھ کر ہنستا تو وہ ہنستا اس رونے سے بہتر
تھا تو ایک خود پسند شخص ہے اور خود پسند کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔“
عن عبدالرحمن بن اطجاج قال قلت لابی عبداللہ الرجل یعمل العمل وهو
خائف مشفق ثم یعمل شیئامن البر فیدخله شبه العجب به؟ فقال هو فی حاله
الاولی وهو خائف احسن حالا منه فی حال عجبہ.

”اکافی جلد ۲ صفحہ ۳۱۳“

راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ”ایک شخص
گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے اور بعد میں وہی شخص نیک عمل
کرتا ہے اور اس میں خود پسندی اور تکبر شامل ہوتا ہے۔ ان دو حالتوں میں سے
اس کی کون سی حالت بہتر ہے؟“

امام علیہ السلام نے فرمایا ”اس کی خوف والی پہلی حالت خود پسندی اور غرور کی
دوسری حالت سے بہتر ہے۔“

حلم و بردباری

﴿عَنْ﴾ امام زین العابدینؑ کی بردباری ﴿عَنْ﴾

ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ آپ نے اس کے جواب میں کچھ نہ فرمایا۔

اسکے جانے کے بعد آپ نے فرمایا: ”میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں تم میں سے جو میرا جواب سننے کا خواہشمند ہو وہ میرے ساتھ اسکے مکان پر چلے۔“

راوی کہتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے افراد آپ کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”وَالْكَافِرِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ اہل ایمان اپنے غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔“

راوی کہتا ہے کہ یہ آیت سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔

پھر امام عالی مقام اس شخص کے دروازے پر پہنچے اور آواز دی کہ باہر آؤ تجھے علی بن الحسین بلا تا ہے۔

اس شخص کو یقین ہو گیا کہ امام لڑائی جھگڑے کیلئے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی

لڑائی پر آمادہ ہو کر گھر سے نکلا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ”بھائی تم نے کچھ دیر پہلے کچھ باتیں کہی ہیں، اگر مجھ میں وہ عیب موجود ہیں تو اللہ میرے وہ عیب معاف فرمائے اور اگر تم نے غلط بیانی کی ہے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے۔“

راوی کہتا ہے کہ وہ شخص یہ سن کر انتہائی شرمندہ ہوا اور آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا: ”خدا کی قسم میں نے جو کچھ کہا تھا وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے، آپ کی جائے وہ تمام برائیاں خود میرے اندر موجود ہیں، میں آپ سے معافی کا طالب ہوں۔“ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ گستاخی کرنے والا حسن بن حسن تھا۔

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک مسخرہ رہتا تھا جو اپنی حرکات سے لوگوں کو ہنسلا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ ”امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے عاجز کر دیا میں نے کئی بار انہیں ہنسانے کی کوشش کی لیکن میری ہر کوشش ناکام ہوئی۔“

ایک دفعہ امام زین العابدین اپنے دو غلاموں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ مسخرہ پیچھے سے آیا اور اس نے آپ کی ردا آپ کے کندھے سے اتاری اور بھاگ گیا۔ غلاموں نے دوڑ کر اس سے ردا واپس لی تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ”یہ کون ہے؟“

غلاموں نے کہا: ”یہ ایک مسخرہ ہے یہ لوگوں کو ہنسا کر ان سے رقم وصول کرتا ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”اس نادان سے کہہ دو کہ اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے جس میں مسخرہ کرنے والے نقصان اٹھائیں گے۔“

امام محمد باقر علیہ السلام کی برادری

شیخ طوسی نے محمد بن سلیمان سے اور اس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شامی کاروبار کے سلسلہ میں مدینہ میں مقیم تھا اور وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بہت آیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ "میں آپ کے پاس کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں آتا، اس پوری زمین پر آپ اور آپ کے خاندان سے زیادہ مجھے کسی سے دشمنی نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا اور رسول اور حکام کی رضامندی کے حصول کے لئے آپ سے دشمنی لازمی ہے۔ میں آپ کے پاس صرف اس لئے آتا ہوں کہ آپ انتہائی فصیح و بلیغ شخص ہیں اور آپ علوم و فنون کا منبع اور مرکز ہیں علاوہ ازیں آپ اخلاق عالیہ کے مالک ہیں۔"

اس کی اس گفتگو کے باوجود بھی امام محمد باقر اس کی مدارات کیا کرتے اور فرمایا کرتے "من تعصی علی اللہ خافیہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔" چند دنوں کے بعد شامی بیمار ہوا اور اس کی بیماری میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ ایک دن جب اس کی طبیعت سخت خراب ہوئی تو اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرا آخری وقت آچکا ہے۔ جب میں مر جاؤں تو مجھ پر کپڑا ازال دینا اور امام محمد باقر کے پاس جا کر انہیں نماز جنازہ کے لئے کہنا اور انہیں یہ ضرور بتانا کہ متوفی نے خود اس کی خواہش کی ہے۔

آدھی رات کے وقت اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے متعلقین کو یقین ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے تو انہوں نے اس پر چادر ڈالی اور نماز فجر کے وقت امام باقر علیہ السلام کے پاس جا کر اس کی موت کی اطلاع دی اور آپ سے نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی۔

آپ نے فرمایا: "شامی ابھی مرا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ شام کا علاقہ سرد ہے اور حجاز کی آب و ہوا گرم ہے۔ میرے آنے تک اس کے جنازہ کو گھر میں رہنے دو۔"

پھر آپ نے وضو کر کے دو رکعت نماز لوا کی اور کافی دیر تک دعا میں مصروف رہے اور سورج طلوع ہوا اور امام مسجد سے باہر تشریف لائے اور اس شامی کے گھر پہنچے۔ گھر میں داخل ہو کر آپ نے اسے صدادی تو اس نے آپ کو جواب دیا: "لیک یا بن رسول اللہ" فرزند رسول میں حاضر ہوں۔" آپ نے اسے تکیہ کے سارے اٹھایا اور ستو کا شرمٹ پلایا۔ آپ نے اس کے اہل خانہ کو حکم دیا کہ مریض کو ٹھنڈی غذا نہیں کھلائیں۔

چند دنوں بعد شامی مکمل طور پر شفا یاب ہو گیا اور امام کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مرد شامی نے تنہائی میں عرض کی "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مخلوق پر حجت خدا ہیں اور آپ اللہ کا وہ دروازہ ہیں جس سے داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جو بھی آپ سے دور ہوا، اس نے خسارہ اٹھایا۔"

امام علیہ السلام نے شامی سے فرمایا: "آج تم اپنے عقیدہ کے برخلاف یہ کیا کہہ رہے ہو؟"

شامی نے کہا "مولا! مجھے اپنی موت کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں نے واقعی موت کا ذائقہ چکھا تھا اور میری روح میرے بدن سے نکل گئی تھی۔ اسی اثنا میں ایک آواز مجھے سنائی دی کہ اس روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹادو، محمد بن علی نے ہم سے اس کی واپسی کی درخواست کی ہے۔ اس کے

بعد میں پھر زندہ ہو گیا۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”ان الله يحب العبد ويغض عمله و يفيض العبد ويحب عمله“ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ بعض بندوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے عمل سے نفرت کرتا ہے اور بعض بندوں سے نفرت کرتا ہے لیکن ان کے عمل کو پسند کرتا ہے۔“

مقصود یہ تھا کہ خدا تجھے پسند نہیں کرتا تھا لیکن تو ہم سے جو دوستی رکھتا تھا اللہ کو وہ دوستی پسند تھی۔

راوی کہتا ہے کہ پھر وہ شامی آپ کا مخلص دوست بن گیا۔ (فتی الامال

جلد ۲)

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بردباری

مدینہ منورہ میں خلیفہ ثانی کی اولاد میں سے ایک شخص امام موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دیتا تھا اور ان پر سب و ہتھم کیا کرتا تھا اور جب آپ کو دیکھتا تو امیر المؤمنین علیہ السلام پر بھی سب و ہتھم کرنے لگ جاتا تھا۔

آپ کے دوستوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کا دماغ ٹھیک کر دیں۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی بد اخلاقی سے منع فرمایا۔

آپ نے اس کے کام کی جگہ کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مدینہ کے اطراف میں فلاں مقام پر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ گدھے پر سوار ہو کر اس کے کھیت کی طرف تشریف لے گئے اس وقت وہ شخص اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔

آپ گدھے پر سوار ہو کر اس کے کھیت میں داخل ہوئے تو وہ چیخنے لگا کہ میری زراعت کو پامال نہ کرو فلاں طرف سے آؤ۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا: ”بھائی اس زراعت پر تمہارا کتنا خرچ ہوا ہے؟“

اس نے کہا: ”ایک سواشرنی۔“

آپ نے فرمایا: ”اس کی پیدوار کتنی ہوگی؟“

اس نے کہا: ”میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”نہیں یہ بات نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کھیتی خیر و عافیت سے آگ جائے تو تمہیں اس سے کتنی پیدوار کی توقع ہے؟“

اس نے کہا: ”دو سواشرنی۔“

پھر آپ نے اسے ایک تھیلی دی جس میں تین سواشرنیاں تھیں اور فرمایا ”تمہاری کھیتی اپنی جگہ موجود ہے اور جس کی تم توقع رکھتے ہو اسے بھی خدا پورا کرے گا اور میری طرف سے بھی یہ قبول کرو۔“

وہ سخت شرمندہ ہوا اور اٹھ کر آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور آپ سے معافی کا طلب گار ہوا۔

آپ وہاں سے مسکراتے ہوئے واپس آئے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد وہ شخص مسجد میں بیٹھا تھا کہ امام موسیٰ کاظم مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے کہا: ”اللہ اعلم حیث يجعل رسالتہ“ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسے اپنا پیغام رساں قرار دے۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بیٹھے تھے وہ اس کی اس دلی عقیدت پر متعجب ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہارے نظریات پہلے تو کچھ اور تھے اور آج تمہارے نظریات کچھ اور ہیں؟

اس نے کہا: ”تم نے میرے پہلے نظریات تو سنے تھے اور اب نئے نظریات بھی سنو۔ میں اس خاندان سے محبت و ولاء رکھتا ہوں۔“
یہ سن کر اس کے دوسرے دوست اس سے جھگڑنے لگے تو اس نے بھی ان سے جھگڑنا شروع کر دیا۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے دوست سے فرمایا: ”دیکھا جس طریقے سے تم اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے وہ طریقہ بہتر تھا یا وہ طریقہ بہتر ہے جس سے میں نے اس کی اصلاح کی ہے۔“ (نتی الامال جلد ۳ صفحہ ۱۲۵)

امام حسن مجتبیٰ کی بردباری

علامہ مجلسی حار الانوار کی جلد دہم میں حالات امام حسن مجتبیٰ میں لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ایک شامی کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے آپ اور آپ کے والد ماجد پر سب و غم کرنا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے جب وہ سب و غم سے تھک گیا تو آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا: ”بھائی شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو میں تمہیں دوں اور اگر راستے سے بھٹک چکے ہو تو تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، اگر تمہیں مال برداری کے لئے جانور کی ضرورت ہے تو تم میرا جانور لے لو، اگر بھوکے ہو تو تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اگر تمہیں لباس کی ضرورت ہے تو تمہیں لباس دوں، اگر غریب ہو تو تمہیں دولت مند بناؤں گا اور اگر فراری ہو تو تمہیں پناہ دوں گا۔ غرضیکہ تمہاری جو بھی حاجت ہو بیان کرو، تمہاری حاجت پوری کر دوں گا۔ تمہارے لئے میرا مشورہ یہی ہے کہ

تم نو وارد ہو ہمارے مہمان خانہ پر آ جاؤ ہمارے پاس وسیع مہمان خانہ ہے۔“
امام کا یہ اخلاق دیکھ کر شامی رونے لگا اور کہا ”اشهد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ“ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر اللہ کے جانشین ہیں۔“
میں اس سے پہلے آپ کا مخالف تھا اور روئے زمین پر آپ اور آپ کے والد سے زیادہ میری نظر میں کوئی ناپسندیدہ نہ تھا اور اب آپ اور آپ کے والد سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔
پھر وہ شامی آپ کے باں مہمان بنا اور وہ آپ کے خاندان کی ولایت اور امامت پر ایمان لے آیا۔

امام صادق علیہ السلام کی بردباری

محمد بن مرزوم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب منصور وراثتی نے امام جعفر صادق کو اپنے پاس بلایا تھا تو میں امام کے ہمراہ تھا۔ واپسی پر ہم حیرہ سے روانہ ہوئے اور صاف لہین پہنچے رات کا پہلا پہر تھا۔ راستے پر عباسی حکومت کا ایک نمائندہ کھڑا تھا۔ اس نے ہماری سواریوں کو روک لیا۔ ہم نے اسے بہتر سمجھایا کہ ہمیں جانے دے مگر اس بدختم نے ہماری ایک نہ سنی اور بدستور اپنی ضد پر اڑا رہا۔

میں نے امام سے کہا: ”اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کتے کو قتل کر کے اس کی لاش دریا میں پھینک دوں۔“
مگر امام نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ آخر کار اس نے رات کے تیسرے پہر ہمیں جانے کی اجازت دی۔

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”مرازم! اچھا ہوا تم نے طیش میں آ کر اسے قتل نہیں کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے تھے جب کہ میں تمہیں صبر کا حکم دیتا تھا۔ بتلا ہم میں سے کس کا طرز عمل درست تھا؟“

پھر آپ نے فرمایا ”ان الرجل یخرج من الدل الصغیر یدخلہ ذلک فی الدل الکبیر“ بعض اوقات آدمی چھوٹی مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے تو اپنی جلد بازی کی وجہ سے بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔“ (روضہ کافی صفحہ ۸۷)

مفضل بن عمرو اپنی کتاب ”التوحید“ میں بیان کرتے ہیں کہ جب مشہور دہر یہ ابن ابی العوجاء سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے اس کی جسارت آمیز گفتگو سنی تو مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے کہا: ”دشمن خدا تو کفر کرتا ہے اور خدا کا انکار کرتا ہے۔“

میرے غصہ کو دیکھ کر ابن ابی العوجاء نے کہا: ”اگر تم اہل استدلال ہو تو ہم تم سے گفتگو کریں گے۔ اگر تم غالب ہو گئے تو ہم تنہا ہی بیرونی کریں گے اور اگر تم اہل مناظرہ نہیں تو تم سے بحث کرنا ہی بے کار ہے۔“

اگر تم امام صادق کے شاگردوں سے ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ آپ ہم سے اس انداز سے گفتگو نہیں کرتے اور ان کا طریق مجاہدہ یہ نہیں ہوتا جو تم نے اپنایا ہوا ہے۔

تم نے ابھی ہم سے کچھ بھی نہیں سنا پھر بھی اتنا ناراض ہو گئے جبکہ ہم امام جعفر صادق کے سامنے بہت چمے آتے ہیں مگر وہ ہم سے غصہ نہیں کرتے، آپ برہنہ، باہ قار اور عقل انسانی کے آخری درجہ پر فائز ہیں، آپ ہمارے دلائل کو نہایت نور سے سماعت کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ امام

ہمارے دلائل سے متاثر ہو چکے ہیں لیکن جب امام ہمارے دلائل کو رد کرتے ہیں تو اتنی مسامت اور علم و بردباری کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس امام کے دلائل کا رد نہیں ہوتا۔

اگر تم امام جعفر صادق کے کتب سے ولسہ ہو تو پھر ہم سے اسی انداز سے گفتگو کرو جیسا کہ امام کرتے ہیں۔“

علی کے ایک تربیت یافتہ شخص کا حکم

ورام بن ابی فراس اپنے مجموعہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک اشتر فقیران لباس اپنے بازار کوفہ سے گزر رہے تھے ایک بد تمیز دکاندار نے جو انہیں نہیں جانتا تھا ان پر خربوزے کا بیج پھینکا۔ حضرت مالک نے کوئی توجہ نہ کی اور بد ستور بازار میں چلتے رہے۔ ایک اور شخص نے اس دکاندار کو متوجہ کیا کہ تو نے جس پر خربوزے کا بیج پھینکا ہے اسے جانتا بھی ہے؟

دکاندار نے اپنی لاطمی کا اظہار کیا تو دوسرے شخص نے بتایا: ”یہ خلیفہ المسلمین کی افواج کا سپہ سالار مالک اشتر ہے۔“

یہ سن کر دکاندار گھبرایا اور معافی مانگنے کے لئے مالک اشتر کے پیچھے چل پڑا راستہ میں ایک مسجد آئی۔ مالک نے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کی۔ دکاندار ان کے انتظار میں صحن مسجد میں کھڑا رہا۔ جب مالک فارغ ہوئے تو دکاندار نے آکر معافی طلب کی اور کہا: ”خدا را مجھے معاف فرمائیں میں نے آپ سے گستاخی کی ہے۔“ حضرت مالک نے فرمایا: ”بھائی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ دو رکعت نماز بھی تیرے استغفار کے لئے پڑھی ہے۔“

﴿﴾ مالک اشترؓ کو پہچانیں

مالک اشتر کی عظمت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ مولائے کائنات امام علی علیہ السلام ان کے لئے فرماتے تھے کہ مجھے مالک پر اسی طرح سے ناز ہے جیسا کہ میرے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر ناز تھا۔

مولا علی علیہ السلام نے مالک کو مصر کا گورنر بنا کے روانہ کیا۔ معاویہ کو مالک کی تقرری کا علم ہوا تو اس نے ”عریش“ کے زمیندار کو لالچ دی کہ اگر وہ مالک کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے بیس سال کی لگان نہیں لے گا۔

مالک اشتر عریش آئے تو اس زمیندار نے دعوت کی اور دعوت میں اس نے شہد کا پیالہ پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ حضرت مالک نے شہد سے چند قطرے چکھے تو ان کی حالت غیر ہونے لگی اور چند لمحات کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ مالک اشتر کی شہادت کی خبر معاویہ کے پاس پہنچی تو وہ بڑا خوش ہوا، وہ خوشی سے پھولانہ ساتا تھا، اس نے خطبہ میں کہا: ”ان اللہ جنودا من العسل شہد میں خدا کے لشکر پوشیدہ ہوتے ہیں۔“

لیکن جب خبر امیر المؤمنین کو ملی تو آپ بہت غمگین ہوئے اور آپ نے منبر پر یہ خطبہ دیا ”انا لله وانا الیہ راجعون والحمد لله رب العالمین اللهم احتسبه عندك فان موتہ من مصائب الدهر رحم الله مالکا فلقد اوفی بعہدہ وقضى نحبہ ولقى ربہ مع انا قد وطننا انفسنا علی ان نصبر علی کل مصیبة بعد مصا بنا برسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فانہا من اعظم المصیبات انا لله وانا الیہ راجعون والحمد لله رب العالمین۔ خدایا! تیری راہ کیلئے میں مالک کی موت پر صبر کر رہا ہوں کیونکہ مالک کی موت زمانہ کی بہت

بڑی مصیبت ہے، خدا مالک کو اپنی رحمت میں جگہ دے اس نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنی مدت کو گزار کر چلا گیا اور اپنے پروردگار کے حضور پہنچ گیا۔ ہمارے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت سب سے بڑی مصیبت تھی، اس کے بعد ہم نے ہر مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنالی ہے۔“

پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لائے۔ مالک اشتر کا خاندان حج آپ کی تعزیت و تسلیت کے لئے آیا تو انہوں نے آپ کو افسردہ اور مغموم پایا۔ آپ نے ان کے سامنے ان الفاظ میں مالک کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کا اعتراف ان جملوں سے فرمایا:

”لله در مالک وما مالک لو كان من جبل لكان فندا ولو كان من حجر لكان صلدا اما والله ليهدن موتك عالما وليفرحن عالما علی مثل مالک فلنبتك البواکی وهل مرجو کمالک وهل موجود کمالک؟ وهل قامت النساء عن مثل مالک؟ اللہ مالک کا بھلا کرے، مالک کیا تھے؟ مالک اگر پہاڑ ہوتے تو عظیم اور بے مثل پہاڑ ہوتے، اگر مالک پتھر ہوتے تو بڑے ہی سخت پتھر ہوتے، خدا کی قسم تیری موت نے ایک عالم کو درہم برہم کر دیا اور ہمارے دشمنوں کو خوش و خرم کر دیا، عزادار عورتوں کو مالک جیسے انسانوں پر رونا چاہئے، کیا مالک جیسا انسان پیدا ہونے کی کوئی امید ہے؟ یا اس وقت کوئی مالک جیسا انسان موجود ہے؟ اور کیا عورتیں مالک جیسا انسان پیدا کریں گی؟“

آپ نے اس موقع پر مزید ارشاد فرمایا: ”مالک کی موت نے شامیوں کو باعزت اور عراقیوں کو خوار کر دیا۔ اس کے بعد ہم مالک کو نہیں پائیں گے۔“

رحمة اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری

بنی سلیم کے ایک اعرابی نے جنگل سے ایک سوسمار (گود) پکڑی اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں رسول اکرمؐ کی خدمت میں پہنچا اور یا محمدؐ کہہ کر آپؐ کو صدا دی اور پھر جسارت کرتے ہوئے کہا: "انت الساحر الکذاب الودی ما اطلت الحصراء ولا اقلت الفراء علی ذی لهجة اکذب ملک" تو ہی وہ بھونکا جاوے گا کہ جس سے بڑے جموںے پر سایہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی زمین نے اپنی پشت پر تجھے سے بڑے جموںے کو اٹھایا۔ مجھے لات و عزی کی قسم اگر میرا قیید مجھے جلد باز نہ کتا تو میں اپنی توار سے تیرا کام تمام کر دیتا اور تجھے قتل کر کے تمام لوگوں پر فخر و مباہات کرتا۔"

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا: "یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کرتا ہوں۔"

آپؐ نے فرمایا: "اجلس یا اباحفص فقد کاد الحلیم ان یکون نبیا" حصہ کے باپ بیٹھ جاؤ، پیغمبر کو حلیم اور بردبار ہونا چاہئے۔"

بدو ایسے ہی ہوتے ہیں یہ غضبناک ہو کر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور تندو تیز باتیں ہمیں سناتے ہیں۔ پھر آپؐ نے اعرابی کی طرف رخ کر کے فرمایا: "بھائی! اسلام قبول کر لے تاکہ آتش دوزخ سے بچ جائے اور اسلام قبول کرنے سے تو ہمارا بھائی بن جائے گا اور ہمارے نفع و نقصان میں شریک ہو جائے گا۔"

یہ سن کر اعرابی اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اپنی آستین سے سوسمار کو باہر پھینکا اور کہا: "لات و عزی کی قسم جب تک یہ سوسمار ایمان نہ لائے میں ایمان نہیں لاؤں گا۔" سوسمار جیسے ہی اس کی قید سے آزاد ہوئی اس نے بھاگنا شروع کیا۔

رحمة اللعالمین نے اسے صدا دے کر فرمایا: "یا ابتها الضب قفی" سوسمار ٹھہر جا۔" سوسمار رک گئی۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: "مجھے بتا کہ میں کون ہوں؟"

سوسمار نے فصیح عربی میں جواب دیا: "انت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف" آپ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔"

پھر آپؐ نے فرمایا: "تو کس کی عبادت کرتی ہے؟"

سوسمار نے کہا: "میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو دانہ کو شکافنے کرتا ہے اور جو ارواح کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ابراہیمؑ کو ظلیل بنایا اور آپؐ کو حبیب بنایا۔"

سوسمار کی گواہی سن کر اعرابی نے سوچا کہ میں نے جس سوسمار کو خود پکڑا اور جسے میں نے خود چھوڑا وہ تو وحید و رسالت کی گواہی دے رہی ہے تو کیا میں ایک سوسمار سے بھی بدتر ہوں اور تو حید و رسالت کا منکر ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے پیغمبر اکرمؐ سے عرض کی "آپؐ ہاتھ بڑھائیں میں مسلمان ہوتا ہوں۔" پھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔

جب اعرابی مسلمان ہو گیا تو آپؐ نے فرمایا: "اسے چند سورتیں حفظ کراؤ۔"

پھر آپؐ نے اس سے پوچھا: "تمہاری مالی حیثیت کیسی ہے؟"

اعرابی نے کہا: "مجھے اس ذات برحق کی قسم جس نے آپؐ کو مبعوث فرمایا رسالت کیا ہے بنی سلیم کے چار ہزار افراد میں سے میں سب سے زیادہ غریب

ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”جو اسے سواری دے میں اس کے لئے جنت کی سواری کی ضمانت دیتا ہوں۔“

سعد بن عبادہ نے کہا: ”میرے پاس سرخ رنگ کی لوٹھی ہے اور آٹھ ماہ کی حاملہ بھی ہے میں نے اسے اپنی لوٹھی دی۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”اسے عمامہ کون دیتا ہے؟ جو اسے عمامہ پہنائے میں اس کے لئے جنت کے عمامہ کی ضمانت دیتا ہوں۔“

حضرت علی علیہ السلام نے اسے عمامہ عطا کیا۔

پھر آپ نے فرمایا: ”اسے کھانا کون کھلاتا ہے؟ آج جو اسے روٹی کھلائے میں اس کو زادِ آخرت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

سلمان نے پوچھا: ”زادِ آخرت کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”مرتے وقت اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہ زادِ آخرت ہے اور اگر یہ کلمہ تمہاری زبان سے جاری نہ ہو تو قیامت کے دن نہ میں تجھے دیکھوں گا اور نہ تو مجھے دیکھے گا۔“

سلمانؓ طعام کے لئے رسول خداؐ کی ازواج کے پاس گئے تو تمام ازواج نے اپنے فاقہ کی خبر دی۔ پھر سلمانؓ خانہِ مطہر کی جانب روانہ ہوئے اور دل میں کہہ رہے تھے کہ اگر اچھائی ملی تو در فاطمہؑ سے ملے گی۔ دروازہ پر پہنچ کر سلمانؓ نے دستک دی۔

حضرت سیدہ نے پوچھا: ”کون ہے؟“

تو جواب دیا: ”میں سلمان ہوں۔“

پھر سلمانؓ نے اعرابی کے ایمان لانے کا واقعہ مفصل طور پر عرض کیا اور اس کے لئے روٹی کی خواہش کی۔

حضرت سیدہ نے فرمایا: ”سلمانؓ ہمارے گھر میں تین دن سے فاقہ ہے۔ بھوک کی وجہ سے میرے لخت جگر حسن و حسین بے تاب ہیں۔ اس کے باوجود میں دروازہ پر آئی ہوئی نیکی کو رو نہیں کروں گی۔“

پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا پیراہن سلمانؓ کو دے کر فرمایا کہ تم میرا یہ پیراہن شمعون یہودی کے پاس گروہ رکھو اور اس سے کچھ گندم یا جو لے کر آؤ۔

سلمانؓ جناب سیدہ کا پیراہن لے کر شمعون یہودی کے پاس گئے اور جب شمعون نے حضرت سیدہ کے پیراہن کو دیکھا تو کہنے لگا: ”واقعی یہ وہی زہد و تقویٰ ہے جس کی تعلیم ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں تورات میں دی ہے۔“ پھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد ایک صاع جو اور کچھ خرے دیئے۔ (صاع تین کلوگرام کے برابر ہوتا ہے)۔

سلمانؓ وہ جو لے کر جناب سیدہ کے پاس آئے، جناب سیدہ نے ان کا آنا تیار کیا اور پھر روٹیاں پکا کر سلمانؓ کے حوالہ کیں۔

سلمانؓ نے عرض کی: ”مٹی ملی بہر ہوتا کہ آپ کچھ روٹیاں اپنے اور اپنے چوں کے لئے رکھ لیتیں۔“

حضرت سیدہ نے فرمایا: ”ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیں تو اس میں سے اپنا حصہ نہیں نکالتے۔“

سلمانؓ خرابانان لے کر حضور کریمؐ کی خدمت میں آئے۔

آپ نے فرمایا: ”طعام کہاں سے لائے ہو؟“

سلمان نے عرض کی: ”میں یہ طعام آپ کی نور نظر کے پاس سے لایا ہوں اور وہ خود تین دنوں سے بھوکی ہیں۔“

رسول خدا بیٹی کے گھر تشریف لائے، دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا تو رسول خدا نے دیکھا کہ بیٹی کی آنکھیں بھوک کی وجہ سے اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ رسول خدا نے اس نقاہت کی وجہ پوچھی تو سیدہ نے عرض کی: ”ہم تین دن سے بھوکے ہیں اور میرے بچے ننھے چوزوں کی طرح کمزور ہو چکے ہیں۔“

رسول خدا نے اپنے نواسوں کو اپنے زانو پر بٹھایا اور دعا کے لئے ہاتھ بلند کر کے فرمایا: ”یا الہی و سیدی و مولای ہولاء اهل بیتی اللہم اذهب عنهم الرجس و طہرہم تطہیراً“ میرے خدائے میرے مرد اور میرے آقا! یہ میرے الہیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھ اور انہیں ایسی پاکیزگی عطا فرما جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔“

جناب سیدہ خلوۃ خانہ میں گئیں اور دو رکعت نماز ادا کی اور خدائے بے نیاز کی درگاہ میں دست سوال بلند کر کے عرض کی: ”الہی و سیدی ہذا نبیک محمد و ہذا علی ابن عم نبیک و ہذان الحسن و الحسین سبطا نبیک الہی انزل علینا مائدۃ من السماء کما انزلت علی بنی اسرائیل اکلوا منها و کفروا بہا اللہم انزلہ علینا فاننا بہا مؤمنون“ پروردگار! یہ تیرے نبی محمد ہیں اور یہ تیرے نبی کے چچا زاد علی ہیں اور یہ تیرے نبی کے نواسے حسن و حسین ہیں، خدایا آسمان سے ہمارے لئے دسترخوان نازل فرما جیسا کہ تو نے بنی

اسرائیل کے لئے دسترخوان نازل کیا تھا۔ انہوں نے رزق کھا کر انکار کیا تھا اور ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔“

راوی حدیث ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی سیدہ کی دعا ختم ہوئی، گھر کے ایک کونے میں جنتی طشت پہنچ گیا، جس سے خوشبو اٹھ رہی تھی، حضرت سیدہ طعام کا طشت اٹھا کر رسول مقبول کے پاس لائیں۔

حضرت علی نے کہا: ”یا رسول اللہ عجیب بات ہے ہمارے گھر میں تو کھانے کے لئے کچھ نہ تھا، یہ طشت کہاں سے آگیا؟“

رسول کریم نے فرمایا: ”علی تم کھاؤ اور یہ مت پوچھو کہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے مجھے مریم بنت عمران جیسی بیٹی عنایت فرمائی، ان کے محراب عبادت میں جب بھی ذکر یاد اقل ہوتے تو انہ کے پاس رزق موجود پاتے اور وہ پوچھتے کہ مریم یہ رزق کہاں سے آیا تو وہ کہتیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے۔“

رسول خدا، حضرت علی، جناب سیدہ اور حضرات حسن و حسین نے جنت کی غذا کھائی۔ پھر رسول مقبول باہر آئے تو اعرابی کو آپ نے روانہ فرمایا۔

جب وہ اعرابی اپنے قبیلہ بنی سلیم میں پہنچا تو پکار کر کہا: ”تو گو! لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔“

اس کی قوم کے لوگ تلواریں سونت کر اس کی سامنے آئے اور کہا: ”تو جادوگر محمد پر ایمان لے آیا ہے؟“

اعرابی نے کہا: ”اے میری قوم! محمد نہ تو جادوگر ہے اور نہ ہی جھوٹا ہے، محمد خدا بہترین خدا ہے اور محمد بہترین نبی ہے، میں بھوکا ہو کر اس کے پاس گیا

تو اس نے مجھے سیر کیا اور برہنہ ہو کر اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے لباس دیا اور میں اس کے پاس پیدل گیا تو اس نے مجھے سواری دی۔“

پھر اس نے اپنی قوم کو سوسہا کا واقعہ سنایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ بھی اسلام قبول کریں۔ چنانچہ اس دن چار ہزار افراد مسلمان ہوئے۔ (ریاضین الشریعہ جلد ۱ صفحہ ۱۳۳، حار الانوار جلد ۱۰ حیاۃ النبی ان لفظ صلب)

بردباری شرط نبوت و خلافت ہے

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا: ”ذوالکفل کون تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟“

تو آپ نے فرمایا: ”حضرت موت میں ایک نبی رہتے تھے جن کا نام عویدیہ تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا: ”تم میں سے میرا جانشین کون بننا چاہتا ہے مگر جانشین کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ حلیم و بردبار ہو اور غصہ میں نہ آئے۔“

یہ سن کر ایک جوان اٹھ کھڑا ہو اور کہا: ”میں آپ کا جانشین بننا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ حلیم و بردباری سے کام لوں گا اور نبی نے بھی اس کی خلافت قبول کر لی۔“

اس کے بعد عویدیہ بنی کی وفات ہو گئی اور وہ جوان ان کا جانشین قرار پایا۔ وہی جوان ذوالکفل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصعب نبوت پر فائز کیا۔ ایک دن ابلیس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ذوالکفل کو غصہ دلائے۔

ایک جن نے جس کا نام ایض تھا کہا: ”میں انہیں غصہ دلاؤں گا۔“ ذوالکفل کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے اور ظہر کے قریب قبول کرتے تھے۔

ایک دن ذوالکفل جیسے ہی دوپہر کے بعد سوئے تو ایض ان کے دروازہ پر آیا اور چیخ چیخ کر کہا: ”میں مظلوم ہوں میری مدد کرو۔“ حضرت ذوالکفل نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا: ”تم جاؤ فریق مخالف کو بھی لے آؤ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔“

ایض اپنے مقام سے نہ ہلا تو ذوالکفل نے اس سے پوچھا ”تم فریق ثانی کو بلانے کیوں نہیں جاتے؟“

اس نے کہا: ”مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میرے بلانے پر نہیں آئے گا۔“ آپ نے اپنی انگوٹھی اسے بطور نشانی دی۔ دوسرے دن پھر ذوالکفل جب گھر میں آرام کر رہے تھے، وہ شیطان ان کے درخانہ پر آیا اور فریاد کیا کہ میری مدد کریں۔

ذوالکفل نیند سے بیدار ہو کر باہر آئے اور پوچھا: ”میں نے تمہیں اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی تھی تو کیا تم نے اپنے مخالف کو نشانی دکھائی تھی؟“ ایض نے کہا: ”جی ہاں! میں نے آپ کی انگوٹھی اسے دکھائی تھی لیکن وہ آپ کے پاس آنے پر رضامند نہ ہوا۔“

ذوالکفل نے اسے رقعہ لکھ کر دیا اور فرمایا: ”اپنے مخالف کو میرا رقعہ دینا امید ہے میرا رقعہ پڑھ کر وہ چلا آئے گا۔“ تیسرے دن جب ذوالکفل سوئے ہوئے تھے تو شیطان نے ان کے دروازہ

پر پھر شور مچا کر کہا: ”میں مظلوم ہوں میری مدد کرو۔“

آپ نیند سے بیدار ہو کر باہر آئے اور اس سے پوچھا: ”تم نے اپنے مخالف کو میرا رقبہ پہنچایا تھا؟“

اس نے کہا: ”جی ہاں! اس نے رقبہ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔“

آپ نے کہا: ”کوئی حرج نہیں میں تمہارے ساتھ فریق مخالف کے دروازہ پر جاتا ہوں۔“ ایضاً کے ساتھ آپ چل پڑے۔

چند قدم چلنے کی بعد ایضاً نے کہا: ”میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں میں صرف آپ کے حلم کا امتحان لے رہا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس پر کس حد تک قائم ہیں؟“

اس قصہ کی طرح میں نے ایک عالم کا قصہ بھی پڑھا ہے کہ تین اشخاص نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ وہ اس عالم کو غصہ دلائیں گے جبکہ وہ عالم دین انتہائی حلیم و بردبار شخصیت تھے۔

چنانچہ ایک رات آدھی رات کے قریب وہ ان کے دروازہ پر آئے اور زور زور سے دروازے کی زنجیر کو کھٹکھٹایا، جس سے تمام افراد خانہ بیدار ہو گئے، دستک سن کر عالم دین نے دروازہ کھولا تو ان لوگوں نے سلام کر کے کہا: ”جناب معاف کرنا اس وقت ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔“

عالم دین نے کہا: ”کوئی حرج نہیں ہے۔“

پھر دوسری رات جب تمام افراد سوئے ہوئے تھے انہوں نے پھر وہی حرکت کی۔ جب عالم نے مسئلہ پوچھا تو کہا: ”جناب ہم بھول گئے ہیں۔“

تیسری رات انہوں نے پھر اس عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عالم نیند سے بیدار

ہو کر باہر آئے تو انہوں نے کہا: ”جناب ہم نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے مگر

مسئلہ کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ہمیں بیان کرتے شرم محسوس ہوتی ہے۔“

عالم دین نے کہا: ”نہیں کوئی بات نہیں، آپ بے دھڑک ہو کر مسئلہ پوچھیں۔“

انہوں نے کہا کہ: ”آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاخانہ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟“ یہ سن کر اس عالم نے حنظل کا اظہار کئے بغیر کہا: ”جب پاخانہ خارج ہوتا ہے تو بیٹھا ہوتا ہے، پھر ٹرش ہو جاتا ہے اور پھر کڑوا ہوتا ہے۔“

ان ساتھیوں نے عالم سے کہا: ”آپ کو کس طرح سے اس کا علم ہے؟“ عالم نے کہا: ”مجھے اس کا علم اس وجہ سے ہوا کہ کبھی مینھی چیز پر بیٹھنا پسند کرتی ہے، جب پاخانہ خارج ہوتا ہے تو اس پر کھیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد پھھر اس پر آکر بیٹھتے ہیں، پھر ٹرشی کو پسند کرتا ہے اور آخر میں اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور کیڑے تلخی کو پسند کرتے ہیں۔“

یہ جواب سن کر تینوں افراد چلے گئے۔

حضرت علیؑ حق بات کیلئے ناراض ہوتے ہیں

معد بن قیس ہمدانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک دیوار کے سایہ میں کھڑا دیکھا تو میں نے عرض کی کہ: ”آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟“

آپ نے فرمایا: ”میں اس لئے یہاں آکر کھڑا ہوں کہ کسی بے بس کی مدد کروں یا کسی مظلوم کی فریاد رسی کروں۔“

اسی دوران ایک عورت نہایت اضطراب کے عالم میں وہاں سے گزری اور پریشانی کی وجہ سے اسے راستہ کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام پر پڑی تو اس نے بوی عاجزی و لاجاری سے مولائے کی خدمت میں عرض کی کہ ”میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے زود کوب کرنے کی قسم اٹھا چکا ہے۔ آپ چل کر میرے شوہر کے پاس میری سفارش فرمائیں تاکہ وہ مجھے ناحق نہ مارے پیٹے۔“

آپ نے فرمایا: ”تم اپنے مکان کا پتہ بتاؤ میں کچھ دیر میں وہاں آؤں گا۔“ عورت نے اپنے مکان کا پورا پتہ بتایا تو آپ نے فرمایا: ”خدا کی قسم میں مظلوم کا حق لے کر رہوں گا۔“

کچھ دیر بعد آپ اس مکان پر گئے۔ دروازہ پر دستک دی تو ایک جوان جس نے رنگین پیراہن پہنا ہوا تھا آمد ہوا۔ آپ نے اس جوان سے فرمایا: ”خدا سے ڈر تو نے اپنی بیوی کو ناحق پریشان کیا ہوا ہے۔“

جوان جو آپ کو نہیں جانتا تھا، کہا: ”آپ کو میاں بیوی کے درمیان مداخلت کا کیا حق ہے اب میں اسے آگ میں جلاؤں گا؟“

امیر المؤمنین علیہ السلام کا دستور تھا کہ آپ جب بھی باہر نکلتے تو اپنے ساتھ ایک ڈڑہ اور ایک تلوار ضرور رکھتے تھے تاکہ جب تادیب کی ضرورت ہو تو ڈڑہ کو استعمال کیا جائے اور اگر کوئی تلوار کا حقدار ہو تو اسے کیفر کردار تک پہنچایا جاسکے۔

مولائے کمر سے تلوار نکال کر کہا: ”میں تجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں اور تو بے چاری بیوی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ توبہ کر

ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔“

جب لوگوں نے آپ کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور امیر المؤمنین کہہ کر آپ کو سلام کرنے لگے تو جوان کو پتا چلا کہ اس کے مخاطب علی علیہ السلام ہیں۔

جوان نے کہا: ”مولائے میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں اور میری بیوی میرے لوہے سے گزر جائے۔“

پھر آپ نے میاں بیوی میں صلح کرا دی اور واپس آتے ہوئے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میرے ذریعہ سے میاں بیوی میں صلح کرا دی۔“ (سفینۃ البحار جلد ۲ صفحہ ۲۲۱)

ایک اور موقع

جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو اس کے ارد گرد بہت سے صحابہ نے مکان بنائے ان کے دروازے مسجد میں کھینے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول مقبول کو حکم ہوا کہ علی کے دروازہ کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے دروازے بند کرا دیں۔

رسول کریم نے ان تمام لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ تم اپنے دروازے بند کرو۔ تمام صحابہ کے دروازے بند ہو گئے۔

آپ نے اپنے چچا عباس کو بھی دروازہ بند کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کی ”علی کا دروازہ کھل ہوا ہے اور آپ میرا دروازہ بند کروا رہے ہیں۔“

آپ نے فرمایا: ”میں نے تمہارے دروازے اپنی مرضی سے بند اور علی کا

دروازہ اپنی مرضی سے کھلا نہیں رکھا۔ اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کرنے اور علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے۔“

پھر عباس نے عرض کی: ”اچھا تو مجھے اپنا پرنا لہ مسجد کی جانب رکھنے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ مجھے بھی کوئی امتیاز حاصل ہو جائے۔“

رسول خدا نے عباس کی درخواست قبول فرمائی اور انہیں مسجد کی سمت پرنا لہ رکھنے کی اجازت عطا کی۔

پھر آپ نے فرمایا: ”لوگو! اللہ نے میرے چچا کو یہ امتیاز عطا کیا ہے۔ خبردار! انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائے وہ میرے آباء و اجداد کی یادگار ہیں۔ خدا اس پر لعنت کرے جو میرے چچا کو اذیت دے اور ان کے حق کو ضائع کرے یا ان کے خلاف کسی کی مدد کرے۔“

خلیفہ ثانی کے دور تک وہ پرنا لہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ ایک دفعہ عباس بیمار ہوئے۔ کنیز نے جھت پر اپنا تمیض دھویا اور پانی پرنا لہ سے گرایا۔ کچھ پانی خلیفہ ثانی کے کپڑوں پر بھی گرا۔

انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ پرنا لہ اکھاڑ کر جھت پر پھینک دے اور کہا: ”جس نے پرنا لہ دوبارہ اس طرف لگانے کی جرأت کی تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔“

جب عباس کو ان واقعات کا علم ہوا تو وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ کے کندھوں کا سارا لے کر حضرت علی کے گھر آئے اس وقت بخاری شدت سے ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ حضرت علی نے انہے کر چچا کا استقبال کیا اور فرمایا: ”آپ نے اس حالت میں آنے کی زحمت کیوں اٹھائی؟“

عباس نے حضرت علی کو پرنا لہ اکھاڑے جانے اور دوبارہ نصب کرنے کی صورت میں دھمکیوں کا ذکر کیا اور کہا ”میری دو آنکھیں تمہیں جن سے میں دیکھا کرتا تھا میری دائیں آنکھ رسول خدا تھے، اور میری بائیں آنکھ تم ہو۔ اب میری ایک آنکھ چلی گئی اور تمہاری شکل میں میری ایک آنکھ باقی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں مجھ سے وہ شرف و امتیاز کوئی نہیں چھین سکتا جو مجھے رسول خدا نے عطا کیا تھا۔“

حضرت علی نے فرمایا: ”چچا جان آپ گھر جا کر آرام فرمائیں، خدا نے چاہا تو آپ کی مٹھاپوری ہوگی۔“

حضرت علی نے قبر کو ذوالفقار لانے کا حکم دیا۔ آپ نے ذوالفقار کمر سے باندھی اور مسجد آئے اور قبر کو حکم دیا کہ پرنا لہ پرانی جگہ پر نصب کرے۔ قبر نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا: ”جس کسی نے پرنا لہ اکھاڑا یا اکھاڑنے کا حکم دیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا اور پھر اس کی گردن کو دھوپ میں ڈال دوں گا تاکہ گرمی سے جلتی رہے۔“

خلیفہ ثانی کو اطلاع ملی کہ علی نے پرنا لہ دوبارہ نصب کر دیا ہے تو انہوں نے کہا ”ہم علی کو ناراض نہیں کریں گے البتہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔“

صبح حضرت علی نے اپنے چچا عباس کو پرنا لہ نصب کرنے کی اطلاع دی اور کہا ”آپ کے پرنا لہ کے لئے مجھے پوری اہل زمین کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تو بھی میں ضرور سامنا کرتا مگر آپ کی خواہش کو پورا کر کے رہتا۔“

عباس اپنی جگہ سے اٹھے اور علی کی پیشانی چوم کر کہا: ”ماخاب من انت ناصرہ“ جس کے آپ مددگار ہوں وہ ناکام نہیں رہتا۔ (سفینۃ البحار لفظ غضب)

چند روایات

عن علی من الحسین قال مر رسول الله يقوم يتشائلون حجرا فقال ما هذا فقالوا نخشعوا لشدنا و اقوانا فقال الاخبركم باشدكم و اقواكم قالوا بلى يا رسول الله قال اشدكم و اقواكم الذي اذراضى لم يدخله رضاه في اثم ولا باطل و اذ اسخط لم يخرج منه سخطه من قول الحق و اذا ملك يقاط ما ليس له بحق.

”سائل چند عس صفحہ ۵۱۶“

امام علی زین العابدین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ سے ہوا جو پتھر اٹھا رہے تھے، آپ نے فرمایا: ”یہ کیا ہے؟“ جو انوں نے کہا: ”ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں زیادہ طاقتور کون ہے۔“ آپ نے فرمایا ”میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟“

جو انوں نے کہا: ”ضرور بتائیں۔“

آپ نے فرمایا: ”تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب وہ راضی ہو تو اسے اس کی رضا گناہ اور باطل میں مشغول نہ کرے، جب وہ ناراض ہو تو ناراضگی اسے قول حق سے باہر نہ نکالے اور جب وہ مالک بنے تو اس چیز پر نظر نہ رکھے جو اس کا حق نہ ہو۔“

قال الصادق الحلم سراج اللہ بنفینی بہ صاحبہ الی جوارہ ولا یكون حلیمًا الا المؤید بانوار اللہ و بانوار المعرفة و التوحید. والحلم یروو علی خمسة اوجه. ان یكون عزیزا فیدل او یكون صادقًا فیتهم او ید عوالی الحق فیستحف بہ او ان یؤذی بلا جرم او ان یطالب بالحق ویخالفوه فان اتیت کلا منها فقد اصبت و

قابل السفيه بالا عراض عنه و ترك الحواب یكن الناس اضرارك لامن جارب السفيه و كافاه قد وضع الحطب علی النار قال رسول اللہ مثل المؤمن مثل الارض ما معهم منها و اذا هم علیها ومن لا یبصر علی جفاء الخلق لا یصل الی رضاء اللہ.

”بخار جلد ۱۵ صفحہ ۲۱۸“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ”علم خدا کا وہ روشن چراغ ہے جس سے حلیم خدا کے قرب تک روشنی حاصل کر سکتا ہے اور انسان اس وقت تک حلیم نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کے نور اور معرفت اور توحید کے نور سے مؤید نہ ہو۔ علم کے پانچ مواقع ہیں (۱) عزت دار ہو اس کی توہین ہو تو بردباری کرے۔ (۲) انسان سچ کے لیکن لوگ اسے جھوٹا کہیں۔ (۳) حق و حقیقت کی دعوت کی بنا پر لوگ اس کی تذلیل کریں۔ (۴) بغیر کسی خطا کے اسے اذیت دیں۔ (۵) وہ اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے لیکن وہ اس حق میں اس کی مخالفت کریں۔“

اگر ان مواقع پر تو نے علم کا اظہار کیا تو پھر تو کامیاب ہے۔ اگر کوئی نادان حد لوب سے نکل جائے تو اس کی طرف توجہ نہ کرو اور جواب مت دو۔ اس صورت میں دگ تمہارے مددگار ہوں گے اگر تم نے احمق کو جواب دیا تو گویا تم نے جلتی پہ تیل گرا دیا۔“

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”مؤمن کی مثال زمین کی طرح ہے لوگ زمین سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور تمام نازیبا کام بھی زمین پر ہی کرتے ہیں جو شخص مخلوق کی جفا پر صبر نہ کرے تو وہ رضائے حق تک نہیں پہنچ سکتا۔“

قال الصادق قال الحواریون لعیسی بن مریم یا معلم الخیر علمنا ای الاشیاء

اشد قال اشد الا شياء غضب الله قالوا فبم يتقى غضب الله قال ان لا تغضبوا قالوا وما بدؤ الغضب قال التكبر والتعجب و محقرة الناس.

”سفينة البحار جلد ۲ صفحہ ۳۱۸“

امام صادق نے فرمایا کہ خواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: ”اے معلم خیر! آپ ہمیں تعلیم دیں کہ سب سے سخت چیز کیا ہے؟“
 آپ نے فرمایا: ”سب سے سخت چیز اللہ کا غضب ہے۔“
 خواریوں نے کہا: ”تو ہمیں اللہ کے غضب سے کیسے بچنا چاہئے؟“
 حضرت عیسیٰ نے فرمایا: ”تم غضب کرنا چھوڑ دو۔“
 خواریوں نے کہا: ”غصہ کی ابتداء کیسے ہوتی ہے؟“
 حضرت عیسیٰ نے فرمایا: ”غصہ کی ابتداء تکبر، خود خواہی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے ہوتی ہے۔“

عن الصادق عن ابیہ انه ذکر عنده العصب فقال ان الرجل لیغضب حتی ما یرضی ابدا ویدخل بدلك النار فایما رحل غضب وهو قائم فلیجلس فانه سیدهب عنه رجس الشیط و ان كان حالسا فلیقم و ایما رحل غضب علی دی رحمہ فلیقم الیہ ولیدن منه ویمسه فان الرحم اذا امت الرحم سکت.

”سفینۃ البحار جلد ۲ صفحہ ۳۱۸“

امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ”غضب“ کی بحث چلی تو انہوں نے فرمایا ”کبھی انسان غصہ کرتا ہے اور پھر کبھی راضی نہیں ہوتا اور یہی ناراضگی اسے دوزخ میں لے جاتی ہے۔“
 جب کسی شخص کو غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہو تو اسے چاہئے کہ بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوا

ہو تو کھڑا ہو جائے۔ اگر کسی شخص کو اپنے رشتہ دار پر غصہ آئے تو انھیں کر اس کے قریب جائے اور اس کے بدن کو مس کرے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔
 بعث ابو عبداللہ غلاما له فی حاجة فابطأ فحرج ابو عبداللہ علی اثره لما انطا فوحده فانما فجلس عند راسه یروّحہ حتی اتبه فلما تبه قال له ابو عبداللہ یا فلان واللہ ما ذلک لك تمام اللیل والنهار لك اللیل ولنا منك النهار.

”اکافی جلد ۲ صفحہ ۱۱۲“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو کسی کام کے لئے بھیجا۔ جب اس نے آنے میں دیر کی تو آپ اس کی تلاش میں نکلے تو اسے ایک جگہ سوتے ہوئے پایا۔ آپ نے اسے پچھلے سے ہوادینی شروع کی جب وہ بیدار ہوا تو آپ نے فرمایا: ”تمہارا یہ حق نہیں کہ تم دن کو بھی سوؤ اور رات کو بھی سوؤ۔ تم رات کو نیند کرو اور دن کو ہمارے کام کرو۔“

سعی و عمل

لَيْسَ لِلانسانِ اِلا مَسْعٰى

﴿ جتنا کام اتنی اجرت ﴾

ایک لکڑہارا روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر چٹا تھا اور اس سے اپنے گھر کا خرچ پورا کرتا تھا۔

ایک دن وہ جنگل میں گیا اور درخت کاٹنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص وہاں آیا اور درخت کے سامنے بیٹھ گیا۔ لکڑہارا جیسے ہی درخت کی جڑ پر کھٹاڑا مارا تو وہ شخص سامنے بیٹھ کر ”ہہ“ کی آواز اپنے منہ سے نکالا۔

الغرض لکڑہارا دوپہر تک کھٹاڑا چلاتا رہا اور وہ شخص ”ہہ“ کی آواز منہ سے نکالتا رہا۔ لکڑہارا لکڑیاں بازار میں لے آیا اور فروخت کیں۔ جیسے ہی اسے لکڑیوں کی قیمت ملی تو ”ہہ“ کی آواز نکالنے والا شخص اس کے پاس آیا اور کہا: ”میرا حصہ مجھے دو۔“

لکڑہارے نے کہا: ”تمہارا حصہ کیسے بتا ہے؟“

اس نے کہا: ”سارا دن تم کھٹاڑہا مارتے رہے اور میں منہ سے ”ہہ“ کی آواز

نکالتا رہا۔ آخر مجھے اس کی اجرت ملنی چاہئے۔“

ان دونوں کے درمیان اختلاف اس قدر بڑھا کہ انہیں قاضی کی عدالت

میں جانا پڑا۔

قاضی نے دونوں کے بیان سے اور فیصلہ یہ کیا کہ لکڑہارے سے کہا:

”اسے جو درہم ملے ہیں وہ انہیں زمین پر پھینکے اور ان سے جو آواز پیدا ہو دوسرا شخص اس کی آواز کو سنے کیونکہ اس نے عمل میں شرکت نہیں کی اور صرف

”ہہ“ کرتا رہا، اب اس کا بدلہ یہی ہے کہ وہ درہموں کی آواز سن لے کیونکہ الرنة

اجرة الانة ”ہہ“ کی اجرت ”تھک تھک“ ہوتی ہے۔“

﴿ محنت کی عظمت ﴾

مفتاح العلوم کے مؤلف سراج الدین سکاکی ایک بلند پایہ عالم تھے اور کئی

علوم انہیں ازبر یاد تھے۔ یہ اپنی جوانی میں لوہار تھے اور لوہے کے مختلف اوزار بنایا

کرتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں ایک تالا بنایا جس کا وزن صرف ایک قیراط

تھا اور اس تالے کو بادشاہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے لئے لے گیا۔

بادشاہ اور اس کے درباریوں نے اس کے بنائے تالے کو دیکھا لیکن اس کی

کوئی خاص ہمت افزائی نہ کی۔

اسی اثنا میں ایک عالم دربار میں وارد ہوا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کا استقبال

کیا اور اپنے پہلو میں اسے بٹھایا۔

سکاکی نے پوچھا: ”یہ کون ہے؟“ اسے بتایا گیا کہ یہ ایک عالم ہے۔

یہ سن کر سکاکی سوچنے لگے کہ اگر میں بھی عالم بن جاؤں تو سلاطین میرا

بھی اتنا ہی احترام کریں گے جتنا کہ اس عالم کا احترام ہو رہا ہے۔

اس وقت سکاکی کی عمر تیس سال کی تھی وہ تحصیل علم کے لئے مدرسہ گئے۔ اسے دیکھ کر مدرس نے کہا: ”مجھے پڑھانے سے تو انکار نہیں ہے لیکن تم اس عمر و سن میں کچھ یاد نہیں کر سکو گے۔“

سکاکی نے کہا: ”میں ہر قیمت پر مسائل یاد کروں گا۔“

مدرس نے کہا ”میں تمہارے حافظ کا امتحان لوں گا پھر تمہیں پڑھانا شروع کروں گا۔“

مدرس نے امام شافعی کے اجتادات میں سے ایک مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ تم اس عبارت کو حفظ کرو۔ عبارت یہ تھی: ”قال الشيخ يطهر جلد الكلب بالذباغ“ شیخ کا قول ہے کہ ذباغت سے کتے کی جلد پاک ہو جاتی ہے۔“

مدرس نے کافی دیر تک سکاکی کو یہ عبارت یاد کرائی۔ دوسرے دن سکاکی نے اس عبارت کو یوں سنایا: ”قال الكلب يطهر جلد الشيخ بالذباغ“ کتے کا قول ہے کہ شیخ کی جلد ذباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔“

مدرسے میں جتنے طلباء بیٹھے تھے وہ یہ عبارت سن کر ہنسی سے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ سکاکی اپنے مستقبل سے مایوس ہو گئے اور دل میں کہنے لگے کہ اس عمر میں کچھ پڑھنا بے کار ہے اور بالخصوص جب قوت حافظہ کمزور ہو۔ انہوں نے مدرسہ چھوڑنے کا قصد کیا۔

اسی دوران ان کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ سے پانی قطرہ قطرہ نیچے گر رہا تھا اور جہاں پانی کے قطرے گر رہے تھے وہاں سخت پتھر تھا اور پانی کی مسلسل بوندیں گرنے کی وجہ سے پتھر میں سورخ ہو چکا تھا۔

سکاکی اس منظر کو کافی دیر تک دیکھتے رہے اور اپنے دل میں کہا کہ پتھر سے

زیادہ سخت کوئی چیز نہیں ہے اور پانی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں ہے۔

نرم پانی کی ایک ایک بوند پڑنے سے سخت پتھر میں سورخ ہو سکتا ہے تو میرا دل و دماغ پتھر سے تو زیادہ سخت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر ایک نئے عزم و ارادہ سے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ آخر کار چند سالوں کے بعد وہ اپنے زمانہ کا مشہور عالم بن گیا۔

زیادہ اجرت زیادہ کام کے بغیر نہیں ملتی

مسجد نبوی میں ایک اعرابی وارد ہوا اور دو رکعت نماز بڑی جلدی سے پڑھی اور نماز میں نہ تو اس نے قرأت کا لحاظ رکھا اور نہ ہی طہارت کو اس نے ملحوظ خاطر رکھا امام علی زین العابدین علیہ السلام اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے۔ نماز کے بعد اعرابی نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کئے اور کہا: ”خدا یا مجھے جنت کے اعلیٰ درجات عنایت فرما، مجھے جنت میں ایک منبری محل اور چار حوریں عطا فرما۔“

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ”عجیب آدمی ہو، حق مر تو بہت کم دے رہے ہو اور چار حوروں سے بیک وقت نکاح کرنا چاہتے ہو۔“ (لطائف الطوائف صفحہ ۴۱)

اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے

محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائری تحریر کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں میرے ذہن میں یہ عجیب سوال پیدا ہوا کہ شیطان نے چھ ہزار سال تک بندگی کی تھی اور ہمیں پوری طرح سے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ چھ ہزار سال دنیا

کے تھے یا آخرت کے تھے؟ اس کے باوجود تجوہ آدم کے حکم کے وقت اسے توفیق الہی کیوں میسر نہ آئی جیسا کہ ملائکہ کو میسر آئی تھی؟ جب چھ ہزار برس عبادت کرنے والا توفیق سے محروم رہا تو ساٹھ ستر سال عبادت کرنے والا توفیق ایزدی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟

ایک عرصے تک یہ سوال میرے ذہن میں غلط پیدا کرتا رہا۔ آخر کار میرے استاد محترم علامہ مجلسی نے چند روایات کی طرف میری توجہ مبذول کرائی جن سے میرا عقده واپس اور میری ذہنی پریشانی دور ہوئی۔

ان روایات کا ماہر حاصل یہ ہے کہ شیطان کا تعلق رُوحہ جنات سے تھا۔ قوم جنات نے سرکشی کی تو اللہ نے ملائکہ کو ان کے خاتمہ کے لئے بھیجا۔ ملائکہ نے تمام قوم جنات کو قتل کر دیا اور شیطان نے اپنی جان بچانے کے لئے ان کے سامنے اپنے آپ کو مؤمن کے طور پر پیش کیا۔

الفرض تمام قوم جنات میں سے اکیلا ابلیس باقی رہ گیا تو اس نے ملائکہ سے کہا کہ ”میری پوری قوم کو تم نے قتل کر دیا ہے اور اب میں اکیلا یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ لہذا تم مجھے اپنے ساتھ آسمان پر لے جاؤ۔ میں وہاں تمہارے ساتھ مل کر عبادت کروں گا۔“

ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی اور اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اس نے آسمانی الواح میں سے ایک لوح پر یہ تحریر لکھی دیکھی کہ: ”میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا خواہ عمل دنیا سے ہو یا آخرت کے حصول کیلئے ہو۔“ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ومن یرد حوث الاخرة نزولہ فی حوثہ ومن یرد حوث الدنیا نزلہ مہا ومالہ فی الاخرة من خلاق“

جو آخرت کی کھیتی کو طلب کرے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی طلب کرے تو ہم اسے دنیا کی کھیتی کا شردیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔“

جب شیطان نے آسمانی لوح کو پڑھا تو اس نے سوچا کہ آخرت ادھار ہے اور دنیا نقد ہے اور کوئی عقل مند نقد کی جائے ادھار پر راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس نے دنیا کے لئے عبادت کرنا شروع کی۔

اللہ تعالیٰ کو اسے دنیا میں اس کا اجر تو دینا ہی تھا، لہذا اسے نہیں ملائکہ کے عہدہ پر فائز کیا گیا اور جب تجوہ آدم کا حکم ملا تو اس کی نیت واضح ہو گئی اور اسے توفیق الہی میسر نہ آئی۔ اگر ابلیس نے رضائے الہی کے حصول کے لئے عبادت کی ہوتی تو یقیناً اسے توفیق اس میسر آتی اور وہ لعین بننے سے محفوظ رہتا۔

جنت فضل سے ملتی ہے یا عدل سے؟

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عابد ایک غار میں رہ کر سالہا سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے غار کے کنارے ایک انار کا درخت پیدا کیا۔ وہ موسم گرما میں تازہ انار کھاتا اور کچھ انار موسم سرما کے لئے غار میں محفوظ کر لیتا تھا۔

حضرت امام صادق نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس عابد کو حساب کے مرحلہ میں داخل کیا جائے گا تو آواز قدرت آئے گی: ”اسے ہمارے فضل و کرم کے تحت جنت میں بھیجو۔“

عابد عرض کرے گا: ”خدا یا! میں نے سالہا سال تیری عبادت کی مجھے

فضل نہیں تیرے عدل کی ضرورت ہے۔“

ارشاد پروردگار ہوگا کہ: ”اس کے عمل کو میزان میں رکھ کر تولو اور ہماری نعمتوں کا بھی وزن کرو۔“

چنانچہ عابد کی زندگی کی تمام نیکیاں میزان کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں ایک دان انار رکھا جائے گا تو انار کا وزن اس کی عبادت سے زیادہ ہوگا، اس وقت عابد کہے گا: ”پروردگار! مجھے تیرا عدل نہیں بلکہ تیرے فضل کی ضرورت ہے۔“

حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار نے وحی فرمائی کہ: ”اے داؤد! اس طرح سے میرا شکر ادا کرو جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے۔“

حضرت داؤد نے عرض کی: ”خدا یا میں تیرا کما حقہ شکر کیسے لوا کر سکتا ہوں کیونکہ شکر بذات خود ایک نعمت ہے اور ہر نعمت متقاضی شکر ہے۔“

اس کے بعد پھر وحی الہی آئی: ”داؤد! جب تم نے یہ جان لیا کہ تم ہمارے شکر ادا کرنے سے قاصر ہو تو تم نے ہمارا اسی طرح سے شکر کیا جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے۔“

سعدی نے گلستان کے ابتدائیہ میں خوبصورت جملے لکھے ہیں ”اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس کی اطاعت موجب قرب اور جس کا شکر اضافہ نعمت کا سبب ہے، ہر سانس پر جو اندر جاتی ہے حمد حیات ہے اور جو باہر نکلتی ہے وہ معرض ذات ہے۔ ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔“

از دست و زبان کہ برآید
کز عمدۂ شکرش بدر آید

شاہی کی قیمت

بیان کیا جاتا ہے کہ ہارون الرشید کے پاس ایک واعظ گیا۔ ہارون نے اس سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو اس نے کہا: ”بادشاہ! اگر آپ سخت پیاسے ہوں اور کہیں سے بھی پانی نہ ملے اور ایک شخص آپ کو ایک جام دے تو بتائیے اس کی کتنی قیمت دینے پر آپ رضامند ہو سکتے ہیں؟“

ہارون نے کہا: ”میں اس حالت میں آدمی حکومت دینے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔“

پھر واعظ نے کہا: ”اچھا اگر وہی پانی آپ کے اندر رک جائے اور پیشاب نہ آئے اور آپ پیشاب کی وجہ سے بہت زیادہ اذیت محسوس کریں تو پانی نکالنے کے لئے کیا قیمت دیں گے؟“

ہارون نے کہا کہ: ”میں آدمی حکومت دے دوں گا۔“

واعظ نے کہا: ”ہارون! ایسی حکومت و مملکت پر ناز نہیں کرنا چاہئے جس کا ادھا حصہ پانی پینے اور ادھا حصہ پانی نکالنے کی قیمت ہو۔“ (انوار نعمانیہ)

قرابتِ رسول مؤثر ہے یا عمل؟

حسن بن موسیٰ بغدادی کہتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس خراسان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس محفل میں امام علی رضا علیہ السلام کا بھائی زید بن امام موسیٰ کاظم بھی موجود تھا اور اس کے پاس بھی چند افراد بیٹھے تھے۔

زید ان سے بڑے فخریہ لہجہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے ہیں، ہم نے یہ کہا،

ہم نے وہ کیا۔

امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی یہ گفتگو سن لی۔

اس سے قبل زید نے بنی عباس کے خلاف مدینہ میں خروج کیا تھا اور عبسیوں سے کچھ گھروں کو آگ لگا دی تھی اسی لئے اسے ”زید النار“ کہا جاتا تھا۔ مامون نے اس کے مقابلہ کے لئے فوج روانہ کی۔ زید گرفتار ہوا تو مامون نے اسے ان کے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کے پاس بھیج دیا تھا۔

امام نے زید کو مخاطب کر کے فرمایا: ”کوفر کے بعض نادانوں کی زبانی تم نے یہ حدیث سنی ہے ”ان فاطمة احصت فرحها فحرم اللہ ذریعتها علی النار“ فاطمہ کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے اس کی اولاد پر دوزخ حرام کی ہے۔“ چنانچہ تم یہ حدیث سن کر مغرور ہو گئے۔ یاد رکھو یہ حدیث صرف امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کے لئے ہے جو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے بلا فصل فرزند ہیں۔ کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ تو معصیت خدا کر کے جنت میں جائے اور تیرا باپ موسیٰ کاظم دن رات خدا کی عبادت کر کے جنت میں جائے تو اس صورت میں تیرا مقام تیرے باپ سے بلند نہ ہوگا۔

خدا کی قسم ”ماینال احد ما عند اللہ الا بطاعة“ مقام قرب اور جنت اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر تیرا یہ خیال ہو کہ تو خدا کی معصیت و مخالفت کر کے جنت میں چل جائے گا تو یہ تیری خام خیالی ہے۔ جب کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے ہم میں سے نیکو کار کو دو گنا اجر ملے گا اور بدکار کو دگنی سزا ملے گی۔

زید نے کہا: ”میں آپ کا بھائی ہوں آپ کے باپ کا بیٹا ہوں۔“

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: ”تو اس صورت میں میرا بھائی ہے جب تو اللہ کی اطاعت کرے۔“

حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کی تھی: ”پروردگار! میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: ”ان لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح“ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اس کے عمل صحیح نہیں ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے نوح کے بیٹے کو اہل سے خارج کر دیا۔

عمیر خراسانی کے غلام

عمیر خراسانی ایک بادشاہ تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے غلاموں کو بھترین پوشاک پہناتا کرتا تھا اور ہر لحاظ سے غلاموں کو دیکھ بھال کرتا تھا۔

ایک مرتبہ عمیر خراسانی کے غلام زریفت کا لباس پہن کر گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا: ”خدا یا! مددہ پروری کا طریقہ کوئی عمیر خراسانی سے سیکھے۔“ (نعوذ باللہ)

چند دن گزرے کہ ایک مخالف بادشاہ نے عمیر کی مملکت پر حملہ کر دیا اور آخر کار تاب مقاومت نہ لاتے ہوئے عمیر بھاگ گیا۔ مخالف بادشاہ نے عمیر کے غلاموں کو گرفتار کر لیا اور پہلے تو بہت لالچ دیا کہ تم عمیر کے چھپے ہوئے خزانوں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ لیکن غلاموں نے زبان نہ کھولی۔ پھر اس نے ان غلاموں پر ظلم و ستم کیا تاکہ وہ اس کی مخفی خزانے اسے بتائیں لیکن غلاموں نے پھر بھی اسے کچھ نہ بتایا۔

غلاموں کی وفاداری دیکھ کر اس شخص کو حیا آئی اور کہنے لگا کہ طریقہ بندگی بھی عمیر خراسانی کے غلاموں سے سیکھنا چاہئے۔

﴿ مؤمنین کے گناہ کیسے زائل ہوتے ہیں؟ ﴾

ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا: ”تم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ کیا میں ان کا شیعہ ہوں؟“

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا: ”اپنے شوہر سے جا کر کہو اگر وہ ہمارے اوامر پر عمل کرتا ہے اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے باز رہتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے ورنہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔“

بیوی کی زبان سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ جواب سن کر وہ شخص بوا پریشان ہوا اور کہنے لگا: ”افسوس انسان کس طرح سے پاک ہو سکتا ہے جب کہ انسان فطری طور پر گناہ گار ہے اور گناہ گار تو آل محمد کا شیعہ ہی نہیں ہے اور جو اس گمراہ کا شیعہ نہ ہو وہ لہدی دوزخ کا حقدار ہے۔“

اس شخص کی بیوی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے اپنے شوہر کی پریشانی کا ذکر کیا تو حضرت سیدہ نے فرمایا: ”اپنے شوہر سے جا کر کہو کہ جیسا کہ اس نے سوچا ہے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ اہل جنت کے بہترین افراد ہیں۔ جو شخص ہم سے دوستی رکھے اور ہمارے دوستوں سے بھی دوستی رکھے اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھے اور قلب و زبان سے ہمارے فرمان کو تسلیم کرے لیکن اوامر و نواہی میں ہماری مخالفت کرے تو ایسا شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ایسا شخص جنت میں ضرور جائے گا لیکن اس سے پہلے دنیاوی شدائد و مشکلات کو دیکھے گا یا

روز قیامت شدائد و مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ دوزخ کے پہلے طبقہ میں کچھ عرصہ رہے گا پھر جب وہ ہماری محبت کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ (حار الانوار جلد ۷ صفحہ ۲۹۵)

﴿ ایسے افراد کتنے ہیں؟ ﴾

مامون رقی کہتے ہیں ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ سل بن حسن خراسانی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا: ”مولا! آپ رحیم و کریم خاندان کے فرد ہیں، امامت آپ کا حق ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لئے جنگ نہیں کرتے جبکہ اس وقت آپ کے لاکھوں عقیدت مند موجود ہیں اور ہزاروں شہداء شہداء آپ کی نصرت کے لئے حاضر ہیں۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”ابھی بیٹھو تھوڑی دیر بعد تمہیں جواب دوں گا۔“ پھر آپ نے کینز کو حکم دیا کہ تور روشن کرے، جب تور روشن ہو گیا اور آگ سے مہر گیا تو آپ نے سل سے فرمایا: ”اس تور میں جا کر بیٹھ جاؤ۔“

سل خراسانی یہ حکم سن کر پریشان ہوا اور معذرت طلب کی۔ اسی دوران میں ہارون مکی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”ہارون! جوتی باہر رکھ دے اور تور میں جا کر بیٹھ۔“

ہارون نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی جیسے ہی ہارون تور میں جا کر بیٹھا تو آپ نے اوپر سے تور کا ڈھکنا بند کر دیا اور سل سے خراسانی کے متعلق کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر آپ نے سل خراسانی سے فرمایا: ”ذرا تور کے پاس

جاؤ اور ہارون کا حال ملاحظہ کرو۔“

سل تیزی سے غور پر آیا اور ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو ہارون ایک سرسبز باغچے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈھکن اٹھتے ہی ہارون اٹھا اور باہر آیا۔

امام علیہ السلام نے سل خراسانی سے پوچھا: ”خراسان میں ایسے افراد کی تعداد کتنی ہے؟“

سل نے کہا: ”خدا کی قسم ایک بھی نہیں۔“

آپ نے فرمایا: ”جب اس طرح کے ہمیں پانچ افراد بھی مل گئے تو ہم اپنے حق کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہم خود بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب خروج کرنا چاہئے۔“ (حدیث الانوار جلد ۱۱ صفحہ ۱۳۹)

درس عبادت امام زین العابدین سے حاصل کریں

حضرت فاطمہ دختر امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب امام زین العابدین علیہ السلام کی کثرت عبادت کو دیکھا اور یہ مشاہدہ کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کثرت عبادت کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے ہیں تو وہ صحابی پیغمبر جابر بن عبد اللہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے فرمایا ”جابر! تم جیسے دونوں پر ہمارا حق ہے کہ جب تم ہم میں سے کسی کو اتنی عبادت کرتے دیکھو جس کی وجہ سے وہ سخت کمزور و ناتواں ہو جائے تو اسے جا کر یہ یاد دہانی کرو کہ کم از کم اپنی جان کا تو لحاظ رکھے۔ میرے بھائی سید الشہداء کی یادگار علی بن الحسین زین العابدین کے پاس جاؤ۔ ان کی حالت یہ ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانی نور زانو اور ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں۔“

حضرت جابر رونے ہوئے جب امام زین العابدین کے مکان پر آئے تو امام محمد باقر علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو ان کی چال کو انہوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا اور بے ساختہ کہا: ”مشیۃ رسول اللہ“ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال ہے۔“

پھر انہوں نے امام محمد باقر کو بلا کر کہا: ”آقا زادہ! آپ کون ہیں؟“

تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔“

یہ سن کر جابر رونے لگے اور کہا: ”میرے ماں باپ آپ پر شکر ہوں، آپ میرے قریب آئیں۔“

امام باقر قریب آئے تو جابر نے ان کے پیراہن کے نیچے کھول کر ان کے سینہ کو چوما اور اپنا منہ ان کے سینہ پر لگایا اور کہا: ”میں آپ کو آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچاتا ہوں اور رسول خدا نے ایک دن مجھے یہ فرمایا تھا ”یوشک ان تعیش و تبقی حتی تلقی من ولدی من اسمہ محمد یقر العلم بقرا وقال انک تلقی حتی تعمی ثم یکشف عن بصرک“

جابر تو میرے بعد زندہ رہے گا اور میری اولاد میں سے تیری ملاقات اس سے ہوگی جس کا نام محمد ہوگا اور وہ علم کے چشموں کو ظاہر کرے گا۔ تو زندہ رہے گا یہاں تک کہ تو نابینا ہو جائے گا پھر اس کی بعد پینا ہوگا۔“

پھر حضرت جابر نے کہا: ”ما جزا سے اپنے والد سے ہماری ملاقات کی اجازت حاصل کرو۔“

امام باقر اپنے والد کے پاس آئے اور عرض کی: ”ایک بوڑھا شخص دروازہ پر آیا ہے اس نے میرے سینہ کے بوسے لئے ہیں اور مجھے رسول خدا کے سلام

پنچائے ہیں اور اس وقت وہ آپ سے اجازت کے طالب ہیں۔“

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ”نور چشم! یہ جاہل عن عبد اللہ انصاری ہیں ان سے کوک اندر آجائیں۔“

جاہل اندر آئے اور امام زین العابدین پر ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ عبادت کی وجہ سے آپ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ امام زین العابدین نے انھیں ان کا استقبال کیا اور اپنے پہلو میں انہیں بٹھایا۔

جاہل نے عرض کی: ”فرزند رسول! کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے جنت کو آپ اور آپ کے دوستوں کیلئے پیدا کیا ہے اور دوزخ کو آپ کے دشمنوں کے لئے خلق کیا ہے، پھر اس کے باوجود آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں؟“

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ”جاہل! کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا جبکہ آپ معصوم تھے اور اللہ نے انہیں یہ بھی کہا تھا ”لیعلمک اللہ ماتقدم من دنبتک وما تاخرو“ اس کے باوجود بھی آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔“

لوگوں نے رسول خدا سے کہا تھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا: ”اولا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“

جاہل نے عرض کی: ”مولا! آپ کچھ اپنی جان کا بھی خیال کریں کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے واسطے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”جابر الازال علی منہاج ابوی مناسیا بہما صلوات

اللہ علیہما حتی القاهما میں اپنے والدین محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہما کے راستے پر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے ملاقات کروں۔“

جاہل نے کہا: ”لو لاد انبیاء میں میں نے علی بن الحسین سے بھڑکسی کو نہیں دیکھا اور انہی کی نس سے وہ پیدا ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ اس سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔“ (حار الاوار جلد ۱۱ صفحہ ۱۹)

امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا شب بیداری کی وجہ سے ان کا چہرہ زرد تھا اور خوف خدا میں گریہ کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانی زخمی تھی اور مسلسل قیام کی وجہ سے ان کے پاؤں متورم تھے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر مزید برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا۔

کچھ دیر بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ”بیٹا! اپنے دادا علی کی عبادت کا مجھے کچھ حال سناؤ۔“

میں نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی عبادت کا کچھ حال بیان کیا تو فرمایا: ”من یقوی علی عبادة علی بن ابی طالب“ علی بن ابی طالب جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟“

ایک نصیحت کی بات

قارئین کرام! آپ نے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی عبادت کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائی۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس مشعل نور سے استفادہ کریں۔ کیا

آپ یہ مان کر سکتے ہیں کہ ان مقصود کائنات ہستیوں کو خدا پر حسن ظن نہیں تھا؟ اور کیا انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اللہ ارحم الراحمین ہے؟ اور کیا آپ ان کے متعلق یہ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کے ازالہ کے لئے اتنی عبادت کی ہو؟ حاشا دکلا۔

یہ ذوات قدسیہ معصوم تھیں تو پھر آئیے چند لمحات کے لئے غور کریں کہ جب انہیں اپنے خدا پر حسن ظن بھی تھا اور وہ ذوات مایہ گناہوں سے بھی مرہم تھیں تو انہیں اتنی عبادت کی ضرورت کیا تھی؟

اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں: "ان العبادۃ ثلاثۃ: قوم عبد واللہ عزوجل خوفانک عبادۃ العبید و قوم عبد واللہ تبارک و تعالیٰ طلب الثواب فتلك عبدة الاجراء و قوم عبد واللہ عزوجل حباله فتلك عبادة الاحرار" عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) ایک گروہ نے دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کی تو یہ غلاموں کی عبادت ہے۔

(۲) ایک گروہ نے ثواب و جنت کے طمع میں اس کی عبادت کی یہ مزدوروں کی عبادت ہے۔

(۳) ایک گروہ نے اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کی۔ یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ یہ گروہ دوزخ کے شعلوں سے گھبرا کر تاریکی شب میں عبادت نہیں کرتا اور جنت کی نعمات کے لالچ میں بھی وہ عبادت نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ کر

عبادت کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نماز کے بعد دست دعا بلند کر کے یہ کہا کرتے تھے: "اللہی ماعبدتک خوفا من نارك ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک" پروردگار! میں نے تیری دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کی اور جنت کی لالچ میں بھی میں نے تیری عبادت نہیں کی میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیری عبادت کی۔ اس مقام پر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ یہ مقام خاندان عصمت و طہارت کے لئے مخصوص ہے۔ مگر مقام افسوس ہے کہ ہم سے تو غلاموں والی عبادت بھی لوانہ ہو سکی۔

امام زین العابدین کا فرمان ہے "ان ابغض الناس الی اللہ من یقتدی بسنة امام ولا یقتدی باعمالہ" اللہ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو کسی امام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کرے لیکن کردار میں اس کی پیروی نہ کرے۔

ہم آلِ محمدؐ کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے افراد سے التماس کرتے ہیں کہ خدا را وہ پیروی اہلیت میں نماز قائم کریں اگر بالفرض اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے نماز شب ادا نہیں کرتے تو کم از کم نماز فریضہ تو ضرور ادا کریں۔

چند روایات

عن ابی عبداللہ قال: قال رسول اللہ افضل الناس من عشق العبادۃ فاعانها واجها بقلبه و باشرها بجسده و تفرغ لها فهو لایبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر۔

"کافی جلد ۱ صفحہ ۸۳"

حضرت امام جعفر صادق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”بہترین انسان وہ ہے جو عبادت کا عاشق ہو اور کسی عزیز کی طرح عبادت کو گلے سے لگالے اور دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرے اور اپنے بدن کے ذریعہ سے عبادت ہی لائے، اس کی ادائیگی کے لئے وقت نکالے، اور اپنی دنیا کے متعلق یہ نہ سوچے کہ آرام سے گزر رہی ہے یا سختی سے گزر رہی ہے۔“

عن ابی ذر فی حدیث قال قلت لہ یا رسول اللہ فما کانت صحف ابراہیم قال کانت امثالا کلھا فمھا ایھا الملک المبتلی المعرور ای لم یعتک لتجمع الدیبا بعضھا علی بعض ولكن یعتک لتردعنی دعوة المظلوم فانی لاردها وان کانت من کافر و علی العاقل مالہ یکن فعلو بان تکون لہ ساعات، ساعة یناجی فیھا ربہ و ساعة یحاسب فیھا نفسہ و ساعة یتفکر فیھا صنع اللہ الیہ و ساعة یحلو فیھا یحظ نفسہ من الحلال فان هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب و تفریغ لہا.

”وسائل جہاد نفس صفحہ ۵۳۰“

ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ: ”صحف ابراہیم میں کیا تھا؟“

آپ نے فرمایا: ”ان میں سب کی سب نصیحتیں تھیں، اس میں یہ نصیحت بھی تھی کہ اے مشرور بادشاہ! میں نے تجھے دنیا میں اس لئے بادشاہی نہیں دی کہ تو دولت اکٹھی کرتا رہے، میں نے تجھے اس لئے بادشاہی دی کہ تو مظلوم کی فریاد کو مجھ تک نہ پہنچنے دے، میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں

نہ ہو۔ اس میں یہ نصیحت بھی تھی کہ ہر عاقل شخص پر جو خواہش نفس سے مغلوب نہ ہو ضروری ہے کہ وہ دن رات کے وقت کو اس طرح سے تقسیم کرے، ایک ساعت کو پروردگار سے مناجات کے لئے مخصوص کرے اور ایک ساعت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور ایک ساعت میں اپنے اوپر ہونے والے خدائی احسانات کے متعلق غور و فکر کرے۔ ایک اور ساعت حلال طریقہ سے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لئے مخصوص کرے اور یہ ساعت باقی ساعات کے لئے مددگار ہے اور دلوں کی شادمانی کا ذریعہ اور آسودگی خاطر کا سبب ہے۔“

عن المفضل قال قال الصادق من استوی یوما فہو معبون ومن کان اخر یومہ شرہما فہو ملعون و من لم یعرف الزیادة فی نفسہ کان الی النقصان القرب ومن کان الی النقصان القرب فالموت خیر لہ من الحیاة.

”حدیث الانوار جلد ۱۵ صفحہ ۱۶۳“

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جس کے دو دن برابر ہوں تو اس نے نقصان اٹھایا اور جس کا دوسرا دن پہلے دن سے برا ہو تو وہ ملعون ہے اور جسے اپنے اندر ترقی اور پیش رفت محسوس نہیں ہوتی وہ تنزل کے قریب تر ہے اور جو تنزلی کے قریب تر ہو اس کی زندگی سے اس کا مر جانا بہتر ہے۔“

عن جابر الجمعی عن الباقر صلوات اللہ علیہ قال یا جابر بلغ شیعی عنی السلام واعلمہم انه لا قرابة بیننا و بین اللہ عزوجل ولا یتقرب الیہ الا بالطاعة لہ یا جابر من اطاع اللہ واحبنا فہو ولینا ومن عصی اللہ لم ینفعہ حبنا.

”حدیث الانوار جلد ۱۵ صفحہ ۱۶۲“

جادو جھوٹی کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: ”جادو! میرے

شیعوں کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ اور انہیں یہ بتادو کہ ہماری خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کا تقرب اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جاہل! جس نے اللہ کی اطاعت کی اور ہم سے محبت کی تو وہ ہمارا دوست ہے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اسے ہماری محبت فائدہ نہ دے گی۔“

عن علی علیہ السلام ان المؤمن لعنه مه في شغل والناس مه في راحة اذ احسن الليل افترش وجهه و سجد لئله عروحل بمكارم بدنه وبساحی الدی حلقه فی فكك رقبته الا هكذنا فكونوا.

”غزید جلد ۱ صفحہ ۳۱“

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے مؤمن کو ہمیشہ اپنے نفس کی فکر رہتی ہے کہ کہیں وہ بے لگام نہ ہو جائے اور لوگ اس سے آسودگی حاصل کرتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو مؤمن اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنے اشراف ترین عضو (پیشانی) سے اس کا سجدہ کرتا ہے۔ اور اپنے خالق سے مناجات کرتا ہے اور اپنی گردن کو دوزخ سے چھاننے کے لئے اللہ سے درخواست کرتا ہے۔ لوگو! متوجہ رہو تمہیں ایسا ہی ہونا چاہئے۔

عن ابی عبد اللہ قال کاد علی بن الحسین یقول ویل لمن غلبت احادہ اعشارہ فقلت له کیف هذا قال اما سمعت قول اللہ عزوجل یقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسنة فلا یحزی الا مثلها فالحسنة الواحدة اذا عملها کنت له عشرًا والسنة الواحدة اذا عملها کنت له واحدة فعود باللہ ممن یوتک فی یوم واحد عشر سنات ولا یکون له حسنة واحدة فعمل حسنة.

”وسائل جلد ۱ صفحہ ۵۳۱“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے اس پر افسوس ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آجائیں۔

میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟

تو انہوں نے فرمایا: ”کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جو ایک نیکی کرے تو اسے دس گنا اجر ملے گا اور جو کوئی برائی کرے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک نیکی سے دس برائیوں کا ثواب ملتا ہے اور برائی ایک ہی شمار ہوتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے کہ کسی شخص کی ایک دن میں دس برائیاں تو ہوں لیکن پورے دن میں ایک نیکی نہ ہو۔

MAHODIY ALIY SONDARJEE

MAHODIY ALIY SONDARJEE

MAHODIY ALIY SONDARJEE

TSARALALAHANTANANARIVO

SONDARJEE

عزتِ نفس

محمد زید علوی کی بلند ہمتی

محمد بن زید بن اسماعیل، سید حسن داعی کبیر کے بھائی تھے اور بھائی کی وفات کے بعد ۲۸ھ میں ان کے جانشین ہوئے اور سولہ برس تک انہوں نے حکومت کی۔ پھر ۲۸ھ میں محمد بن اسماعیل سامانی کے سپہ سالار محمد بن ہارون سے ان کی جنگ ہوئی تھی اور اسی جنگ میں وہ قتل ہوئے تھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب محمد بن زید علوی کی طبرستان پر حکومت تھی تو وہ سامانہ وظائف تقسیم کرتے وقت پہلے قریش کو ترجیح دیتے اور بعد ازاں انصار و فقیہاء میں وظائف تقسیم کرتے تھے اور اس کے بعد عوام الناس میں ان کے وظائف تقسیم کرتے تھے۔

جب وہ قریش سے ابتداء کرتے تو عبد مناف کی اولاد کو قریش کے باقی بھون پر مقدم رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ بنی ہاشم سے ابتدا کرتے اور پھر درجہ بدرجہ قریش کے باقی سلسلوں کو وظائف کی رقم دیتے تھے۔

ایک مرتبہ انہوں نے وظیفہ کی تقسیم شروع کی تو ایک شخص نے کہا:

”مجھے بھی میرا حصہ دو۔“

انہوں نے پوچھا: ”تمہارا سلسلہ نسب کس سے جا کر ملتا ہے؟“

اس شخص نے کہا: ”میں بنی عبد مناف میں سے ہوں۔“

انہوں نے پھر پوچھا: ”بنی عبد مناف کی کس شاخ سے تمہارا تعلق

ہے؟“ تو اس نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔

اہل دربار نے کہا: ”پھر یہ شخص یقیناً یزید بن معاویہ کی اولاد میں سے

ہوگا۔“

جب اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ میں واقعی یزید کی نسل

سے ہوں۔ دربار میں چند نوجوان اس کو قتل کرنے کے لئے اٹھے۔

محمد بن زید نے آواز دے کر کہا ”اسے قتل نہ کرو اس کے قتل سے امام

حسین علیہ السلام کے خون کا قصاص پورا نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں اسے اللہ نے

نسل یزید میں پیدا کیا ہے اس میں اس کا کوئی قصور و ارادہ شامل نہیں تھا۔ میری

نظر میں نسل یزید ہونا جرم نہیں ہے بلکہ یزیدی ہونا جرم ہے۔“

سید علوی نے اس شخص کو وظیفہ دیا اور دو آدمیوں کو بلا کر کہا کہ: ”اسے

امن سے اس کے وطن تک پہنچادیں۔“

سید رضی کی بے نیازی

ابو اسحاق کاتب کہتا ہے کہ میں ایک دن وزیر ابو محمد مہلبی کے پاس بیٹھا

تھا کہ دربان نے اطلاع دی کہ سید رضی ملنے کے لئے آئے ہیں۔ وزیر نے جیسے

ہی ان کا نام سنا تو فوراً مسند سے اٹھا اور ان کے استقبال کے لئے دروازہ تک گیا۔

پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے اندر آیا اور اپنی مسند پر سید رضی کو بٹھایا

اور خود ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ سید رضی نے اجازت لی وہ انہیں وداع کرنے پھر دروازہ تک واپس گیا۔

جب سید رضی چلے گئے تو میں نے وزیر سے پوچھا ”آپ نے ان کا اتنا احترام کیوں کیا؟“

وزیر نے کہا: ”اس لئے میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ سید رضی خود دار شخصیت کے مالک ہیں، ان کی خودداری کا عالم یہ ہے کہ ان کے سر سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے مبارکبادی کے طور پر ان کے پاس ایک ہزار دینار روانہ کئے تو انہوں نے قبول نہ کیا اور قاصد کے ہاتھ لکھ بھیجا جس میں تحریر تھا کہ ”وزیر کو علم ہونا چاہئے کہ میں کسی سے کچھ قبول نہیں کرتا۔“

میں نے قاصد کے ہاتھ وہ رقم واپس بھیجی اور کہا بھیجا کہ ”یہ رقم آپ کے لئے نہیں میں نے یہ رقم دایہ کے لئے روانہ کی تھی۔“

سید رضی نے میری رقم واپس کر دی اور لکھ بھیجا کہ: ”وزیر کو علم ہونا چاہئے کہ ہمارے گھر میں باہر سے دایہ نہیں منگوائی جاتی۔ ہمارے گھر کی بوزھی خواتین یہ فریضہ سرانجام دیتی ہیں۔“

میں نے تیسری مرتبہ وہ رقم ان کے پاس روانہ کی اور کہا بھیجا کہ: ”آپ اس رقم کو اپنے مدرسہ کے طلباء میں تقسیم کر دیں۔“

جب میرا قاصد وہ رقم لے کر ان کے پاس گیا تو سید رضی مدرسہ میں طالب علموں کو پڑھا رہے تھے۔ قاصد نے انہیں جا کر میرا یہ پیغام دیا کہ یہ رقم طالب علموں کے لئے ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ طالب علم موجود ہیں۔ تم تعالٰیٰ زمین پر رکھ دو جسے جتنی ضرورت ہوگی وہ حسب ضرورت رقم اٹھالے گا۔

قاصد نے تعالٰیٰ زمین پر رکھا۔ ایک طالب علم کے علاوہ کوئی رقم لینے کے لئے نہ اٹھا اور اس طالب علم نے ایک دینار اٹھایا اور اسے کھلا کر کے صرف ایک درہم لیا اور باقی درہم تعالٰیٰ میں رکھ دیئے۔

سید رضی نے اس طالب علم سے پوچھا کہ: ”تمہیں ایک درہم کی کیوں ضرورت پڑ گئی تھی؟“

اس نے کہا: ”استاد محترم! رات کے وقت ہم کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے اور کل رات خادم موجود نہ تھا کہ میں اس سے تیل حاصل کر سکتا مجبور ہو کر میں نے دکاندار سے ایک درہم کا تیل قرض پر حاصل کیا۔ اسی لئے میں نے ایک درہم اس رقم میں سے لیا ہے۔“

سید رضی نے جیسے ہی یہ سنا تو انہوں نے گودام کی بہت سی چابیاں تیار کرائیں اور ہر طالب علم کے ہاتھ میں ایک ایک چابی تمھاری اور فرمایا: ”جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو خادم کا انتظار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، گودام کا دروازہ کھول کر اپنی ضروریات پوری کیا کرو۔“

وزیر نے یہ داستان سنا کر کہا کہ: ”اب تم ہی بتاؤ اگر میں ایسے خود دار شخص کی عزت نہ کروں تو کس کی کروں۔“ (روضات الجنات صفحہ ۷۷)

دیانتداری کی یہ داستان ملاحظہ فرمائیں

شہداء نامی ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی شہاد کا ایک بھائی بھی حکمران تھا جس کا نام شدید تھا اور وہ بڑا انصاف پسند اور نیک طبیعت تھا۔ حکمران چونکہ خود اچھا تھا اسی لئے رعایا میں سے کسی فرد کو برأت نہ تھی کہ

وہ کسی پر ظلم و ستم کرے۔

اس نے ایک شخص کو مقدمات کے فیصلہ کے لئے قاضی مقرر کیا۔ پورے سال میں قاضی کے پاس کوئی بھی مقدمہ نہ آیا۔ تو اس نے شدید سے کہا: ”میں تنخواہ لینا ناجائز سمجھتا ہوں کیونکہ پورا سال گزر گیا میرے پاس کوئی مقدمہ نہیں لایا گیا اور نہ ہی میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے۔“

شدید نے کہا: ”کوئی بات نہیں تم تو اپنی مندر پر موجود رہے ہو۔ لہذا تنخواہ تمہارا حق ہے۔“

ایک سال بعد قاضی کے پاس پہلا مقدمہ آیا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک شخص نے کہا: ”میں نے اس آدمی کے ہاتھ اپنی زمین فروخت کی تھی اور میں نے اس سے رقم وصول کر لی تھی۔ اب اسی کھیت میں سے دینہ برآمد ہوا ہے تو یہ شخص کہتا ہے کہ دینہ کا مالک میں نہیں تم ہو۔“

قاضی نے دوسرے فریق کا بیان سنا اس نے کہا ”جی ہاں! یہ بیان درست ہے میں نے اپنے دوست سے زمین خریدی تھی دینہ نہیں خریدا تھا۔ لہذا اب اگر کچھ برآمد ہوا ہے تو وہ میری ملکیت نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہے جبکہ فریق اول یہ کہتا تھا کہ جب میں زمین بیچ چکا ہوں تو دینہ کیسے میرا ہو سکتا ہے؟“

قاضی نے دونوں کے بیان سنے اور پوچھا کہ آیا خدا نے تمہیں اولاد بھی عطا کی ہے تو فریق اول نے کہا: ”جی ہاں! اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔“

اور فریق ثانی نے کہا: ”اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے۔“

قاضی نے یہ سن کر کہا: ”ان چوں کی آپس میں شادی کر دی جائے اور دینہ ان چوں کا ہوگا۔“ (روحۃ الصفا احوال ہود)

دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟

شیخ صدوق علی الشرائع میں علی بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ابن ابی عمیر دولت مند شخص تھے اور وہ کپڑے کے تاجر تھے اتفاق سے ان کا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ کوزی کوزی کے محتاج ہو گئے۔ ایک دکاندار نے ان سے دس ہزار درہم قرض لیا تھا۔

مذکورہ دکاندار کسی وجہ سے اپنے کاروبار کو جاری نہ رکھ سکا اور اسے مجبور ہو کر اپنا مکان فروخت کرنا پڑا۔ مکان کی قیمت کے طور پر اسے دس ہزار درہم ملے۔ اس نے وہ رقم اٹھائی اور ابن ابی عمیر کے پاس آئے اور کہا: ”یہ آپ کی رقم ہے آپ مجھ سے وصول کر لیں۔“

ابن ابی عمیر نے کہا ”میں نے تو سنا ہے کہ آج کل تو گردش ایام کا شکار ہے۔ یہ مال کسی نے تجھے بلور تھنہ دیا یا میراث میں سے تجھے حصہ ملا؟“

اس نے کہا: ”یہ رقم نہ تو تھنہ میں ملی ہے اور نہ ہی میراث کی مرہون منت ہے، میں چونکہ آپ کا مقروض تھا اور قرضہ ادا کرنے کے لئے میرے پاس سرمایہ موجود نہ تھا اسی لئے میں نے اپنا مکان فروخت کیا ہے تاکہ تمہارا قرض ادا ہو سکے۔“

ابن ابی عمیر نے کہا: ”میں نے ذریعہ مہلکی سے سنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: ”لا ینخرج الرجل عن مسقط رأسہ بالدين“ قرض کی وجہ سے کسی کو گھر سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔“

اس وقت اگرچہ مجھے ایک ایک درہم کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن میں تم سے ایک درہم بھی اس رقم میں سے نہیں لوں گا۔ (تہذیب النہی صفحہ ۲۱۷)

نعمان بن بشیر کی بلند ہمتی

جب یزید لعین نے اہل بیت طاہرین کو قید سے آزاد کیا تو نعمان بن بشیر کو بلایا اور تمیں آدمی اس کے ہمراہ کئے اور اسے کہا کہ تم اس لئے ہوئے قافلہ کے ساتھ مدینہ جاؤ، تم ایک معقول فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے جاؤ اور راستہ میں انہیں جس چیز کی ضرورت ہو بہم پہنچاؤ۔

نعمان بن بشیر نے یزید کی ہدایات سے بھی زیادہ اس خاندان کی ضروریات کا لحاظ رکھا اور ان کے ساتھ مدینہ آیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو جناب فاطمہ دختر امیر المؤمنین (ام کلثوم) نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ اس شخص نے ہم سے نیکی کی ہے اور ہمیں بھی اس شخص کی نیکی کا بدلہ دینا چاہئے۔

جناب زینب نے فرمایا: ”بہن ہمارے پاس تو کچھ نہیں، کربلا کی عارت کے بعد دو دست بند اور دو بازو بند واپس لے لیں ہم وہی اسے دے دیتے ہیں۔“

چنانچہ جناب زینب کبری سلام اللہ علیہا نے وہی زیور نعمان بن بشیر کے پاس روانہ کئے اور فرمایا ”ہمیں معذور سمجھنا اس کے علاوہ ہمارے پاس دینے کے لئے اور کچھ نہیں ہے۔“

نعمان نے زیور لینے سے انکار کر دیا اور کہا: ”نبی! اگر میں نے دنیا طلبی کے لئے ایسا کیا ہوتا تو بھی یہ انعام کم نہ تھا۔ لیکن میں نے پیغمبر خدا کی نسبت سے آپ کی خدمت کی ہے، لہذا میں کچھ بھی نہیں لوں گا۔“ (مقتل خواری جلد ۲ صفحہ ۷۵)

شاعر آل محمد کیت کی بلند ہمتی

کیت اسدی آل محمد کے عالی قدر شاعر تھے۔ علامہ اتنی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ”الغدير“ کی جلد دوم کے صفحہ ۱۸ پر مروج الذہب مسعودی کے حوالہ سے ان کے متعلق لکھا ہے کیت مدینہ آئے اور شام کے وقت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوئے کیت نے ان کی خدمت میں اپنا مشہور قصیدہ ”مبہہ“ پڑھا جس میں اہلبیت طاہرین کی مدح تھی اور جب وہ قصیدہ کے اس شعر پر پہنچے:

و قیل بالطف غودر منہم
بین غونماء امة و طغام

اہلبیت کے سردار کو کربلا میں امت کے شور و غوغا اور سرکشوں کے شور میں قتل کر دیا گیا۔

امام باقر علیہ السلام اس شعر کو سن کر روئے اور فرمایا: ”کیت! اگر ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم تمہیں ضرور دیتے لیکن تمہارے لئے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لئے کہا تھا کہ ”لازلت مؤیداً بروح القدس ما ذبیت عنا اهل البيت“ تم جب تک اہلبیت کا دفاع کرتے رہو گے تو روح القدس سے تمہاری تائید ہوتی رہے گی۔“

امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھ کر کیت عبد اللہ بن حسن کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنا قصیدہ پڑھا تو جناب عبد اللہ نے کہا: ”میں نے چار ہزار درہم میں ایک باغ خریدا ہے اور یہ خریداری کی سند میرے پاس موجود ہے۔ تم قبلاً ملکیت مجھ سے لے لو اور باغ سے استفادہ حاصل کرو۔“

کیت نے کہا: ”میرے مال باپ آپ پر نثار ہوں، اگر آپ کے علاوہ میں کسی اور کے حق میں شعر کہتا تو دنیا کے لئے کتنا نیکن میں نے یہ شعر دنیا طلبی کے لئے نہیں کے میرا مقصود صرف رضائے خدا کا حصول ہے۔“

عبداللہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو کیت باغ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد کیت عبداللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی: ”میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر آیا ہوں۔“

عبداللہ نے کہا: ”اپنی حاجت بیان کرو ہم تمہاری حاجت پوری کرینگے۔“ کیت نے کہا: ”پہلے وعدہ کریں کہ آپ میری درخواست ضرور قبول کریں گے۔“

حضرت عبداللہ نے کہا: ”ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری درخواست قبول کریں گے۔“

کیت نے کہا: ”میری درخواست صرف یہی ہے کہ آپ باغ کا قبائلی ملکیت مجھ سے لے لیں۔“

حضرت عبداللہ نے مجبور ہو کر قبائلی ملکیت واپس لے لیا۔ پھر عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے ایک چادر لی اس کے چاروں اطراف ان کے بیٹوں نے پکڑے ہوئے تھے وہ بنی ہاشم میں سے فردا فردا ایک ایک دروازہ پر گئے اور کہا: ”گروہ بنی ہاشم! جب لوگوں نے تمہارے فضائل و مناقب چھپائے تو کیت نے تمہارے فضائل و مناقب اشعار کے رنگ میں دنیا کے سامنے پھیلانے اور اپنے جسم کو بنی امیہ کی تلواروں کے سامنے پیش کیا۔ لہذا تم سے جتنا بھی ممکن ہو اسے انعام دو۔“

بنی ہاشم کے مردوں سے انعام لینے کے بعد عبداللہ بن معاویہ مستورات کے پاس گئے اور ان سے بھی کیت کو انعام دینے کی درخواست کی۔ مستورات بنی ہاشم نے اپنے زیورات اس چادر میں ڈالے۔

الغرض عبداللہ بن معاویہ زیورات کے علاوہ ایک لاکھ درہم اکٹھا کر کے لائے اور کیت کے سامنے چادر رکھ کر کہا: ”یا اباالمستهل اتیناک بجهد المقل“ کیت ہماری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کرو اور ہمیں معذور سمجھو کہ ہم کچھ زیادہ نذرانہ پیش نہ کر سکے کیونکہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔“

کیت نے کہا: ”میرے مال باپ آپ پر قربان، آپ نے بہت زیادہ نذرانہ پیش کیا میں نے آپ کی مدد خدا اور رسول کی رضا کے حصول کے لئے کی ہے، مجھے کسی طرح کے دنیاوی معاوضہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ رقم واپس کر دیں۔“

عبداللہ نے بہت اصرار کیا لیکن کیت راضی نہ ہوئے۔ اور اجازت لے کر چلے گئے۔

ایک با عظمت و خوش عقیدہ خاتون

بخاری مکاری کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا: ”بخاری! قریب آ جا اور کھجوریں کھاؤ۔“

میں نے عرض کی: ”مولا! میں آ رہا تھا کہ راستہ میں ایک عجیب منظر دیکھا

جس کی وجہ سے میں رونے لگا اور میرا جی اس وقت بھی رونے کو چاہ رہا ہے۔ اسی لئے میں بھجوریں نہیں کھاؤں گا، آپ تناول فرمائیں۔“

آپ نے فرمایا: ”بخار میرے اس حق کا واسطہ جو تمہارے ذمہ ہے۔ میرے قریب آؤ اور بھجوریں کھاؤ۔“

چنانچہ میں نے امام علیہ السلام کے ساتھ بھجوریں کھانی شروع کیں۔

امام عالی مقام نے مجھ سے پوچھا کہ: ”تم نے کیا دیکھا ہے؟“

میں نے عرض کی: ”مولا! میں نے حکومت کے چند سپاہیوں کو دیکھا جو ایک عورت کو تازیانوں سے پیٹ رہے تھے اور عورت لوگوں کو خدا و رسول کا واسطہ دے کر مدد کے لئے پکار رہی تھی مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔“

امام علیہ السلام نے پوچھا: ”یہ بتاؤ کہ سپاہی اس عورت کو کیوں مار رہے تھے؟“

میں نے کہا: ”مولا! میں نے سنا ہے کہ وہ عورت سڑک پر جا رہی تھی اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر جاگری اور اس کے منہ سے یہ الفاظ جاری ہوئے ”لعن اللہ ظالمیک یا فاطمة الزهراء“ فاطمہ زہرا! اللہ ان پر لعنت کرے جنہوں نے آپ پر ظلم کئے تھے۔“

اسی لئے اس عورت کو سپاہیوں نے پکڑ کر تازیانے مارنے شروع کئے اور اسے گرفتار کر کے لے گئے۔“

یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام اتار دئے کہ آپ کی ریش مبارک اور رومال آنسوؤں سے تر ہو گئے اور آپ کے آنسو پختے ہوئے سینہ مبارک پر جاری ہو گئے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”بخار آؤ مسجد سہلہ چل کر اس خاتون کی رہائی کے لئے دعا مانگیں۔“

پھر آپ نے اس خاتون کی خبر معلوم کرنے کے لئے اپنے ایک صحابی کو دارالامارہ روانہ کیا۔ ہم مسجد سہلہ آئے اور دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے دعا کے لئے اپنے ہاتھ بلند کئے پھر سجدہ کیا، پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور فرمایا: ”آؤ چلیں وہ مؤمنہ خاتون آزاد ہو چکی ہے۔“

ہم مسجد سہلہ سے واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں امام عالی مقام کا وہ صحابی ہمیں ملا جسے آپ نے اس خاتون کی خبر معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ امام سیدہ السلام نے مؤمنہ خاتون کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے کس طرح سے رہائی ملی؟

صحابی نے عرض کی: ”مولا! میں وہاں موجود تھا جب اس خاتون کو دوبارہ میں پیش کیا گیا تو اس لی لی سے حاکم نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟“

اس خاتون نے جواب دیا کہ میں رلہ چلتے گر پڑی تھی اور میں نے یہ الفاظ کہے تھے: ”لعن اللہ ظالمیک یا فاطمة الزهراء“ فاطمہ زہرا کے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے علاوہ میرا کوئی جرم نہیں ہے۔ تمہارا سپاہی مجھے تازیانے مار رہا ہے۔“

حاکم نے کہا ”میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، سپاہیوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں۔“

پھر حاکم نے دو سو درہم اس خاتون کو پیش کئے لیکن خاتون نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس خاتون کو آزاد کر دیا گیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”تو کیا اس نے دو سو درہم لینے سے انکار کر دیا؟“

صحابی نے عرض کی: ”جی ہاں! جبکہ وہ سخت غربت و افلاس کا شکار نظر آتی تھی۔“

آپ نے اپنی جیب سے سات دینار نکالے اور فرمایا: ”اس خاتون کے پاس جاو اسے میری طرف سے سلام پہنچاؤ اور یہ سات دینار بھی میری طرف سے اسے پہنچاؤ۔“

بخاری کہتا ہے کہ ہم اس خاتون کے گھر گئے اور اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلام پہنچائے، خاتون نے ہم سے پوچھا کہ: ”کیا واقعی امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے سلام بھیجا ہے؟“

ہم نے کہا: ”جی ہاں امام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔“

یہ خوش خبری سن کر مؤمنہ فرط مسرت سے بے ہوش ہو گئی۔ ہم اس کے ہوش میں آنے تک وہاں ٹھہرے رہے۔ جب مؤمنہ کو ہوش آیا تو ہم نے سات دینار اس کے حوالے کئے۔

مؤمنہ نے کہا: ”سلوہ ان یتوہب امنہ من اللہ“ میری طرف سے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ اس کنیز کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کراویں۔“

پھر ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے مؤمنہ خاتون کی فرمائش امام کی خدمت میں پیش کی۔ امام علیہ السلام نے رورہ کر اس کے لئے دعائے مانگی۔ (بخاری الاوار جلد ۱۱ صفحہ ۲۲۵)۔

جس نے پیغمبر سے مالی مدد کی درخواست نہ کی

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی مالی پریشانی کا شکار ہوا اور اخراجات کے لئے وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم اور سخی ہیں تم ان کی خدمت میں جا کر اپنی غربت کی داستان سناؤ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری ضرورت مدد کریں گے۔

بیوی کا مشورہ سن کر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت رسول خدا منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا ”سنلنا اعطیباہ ومن استغنی اغناہ اللہ“ جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے اور جو اپنی شرافت نفس کی وجہ سے سوال کرنے سے گریز کرے گا تو اللہ اسے غنی بنا دے گا۔“

صحابی نے آپ کے یہ الفاظ سنے تو آپ کے یہ الفاظ اسے اپنے سینہ میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے اور اس نے اپنے ذہن میں کہا کہ حضور کریم کے ان الفاظ کا روئے سخن میری طرف ہے۔

صحابی اپنے گھر آیا، بیوی نے پوچھا کہ تم نے حضور سے سوال کیا تھا؟ صحابی نے بتایا ”میرا ارادہ سوال کرنے کا تھا لیکن میرے سوال کرنے سے پہلے رزمۃ للعالمین نے فرمایا کہ جو ہم سے مانگے گا تو ہم اسے عطا کریں گے اور جو سوال کرنے سے گریز کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا اور مجھے یہ یقین ہے کہ حضور نے یہ الفاظ میرے لئے ہی کہے تھے۔“

بیوی نے کہا: ”نہیں ایسی کوئی بات نہیں حضور اکرم بھی انسان ہیں۔“

چند روایات

عن ابی عبداللہ قال کان امیر المؤمنین یقول لیجتمع فی قلبك الافتقار الی الناس والاستغناء عنهم فیکون الافتقار الیهیم فی لین کلامک و حسن بشرک و یکون استغناؤک عنهم فی نزاهة عرضک و بقاء عزک.

”انکافی جلد ۲ صفحہ ۲۳۲“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ”امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تیرے دل میں لوگوں کی ضرورت اور لوگوں سے بے نیازی کی دونوں صفات ہونی چاہئیں۔ ضرورت کا انہمازی اور خوش روئی سے ہونا چاہئے (یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھیں کہ تمہیں ان کی ضرورت ہے) اور تیری بے نیازی کا اظہار اپنی آمد کی حفاظت اور بھانے عزت کے ذریعہ سے ہونا چاہئے۔“

قال امیر المؤمنین من رضى من الدنيا بما يجزيه كان اليسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شئ يكفيه.

”وائی جلد ۲ صفحہ ۳۳۵“

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص اپنی ضروریات زندگی پر قناعت کرے تو اس کے لئے تھری ہی دنیا بھی کافی ہوگی اور جو اپنی ضروریات پر قناعت نہیں کرتا تو دنیا کی کوئی چیز اس کی کفایت نہیں کر سکے گی۔“

شکلی رجل الی ابی عبداللہ انه یطلب فیصیب ولا یقنع وتنازعه نفسه الی ما هو اکثر مه وقال علمی شینا انفع به فقال ابو عبداللہ ان کان ما یکفیک یغیک فادنی ما فیها ینبک وان کان ما یکفیک لا ینبک فکل ما فیها لا ینبک

”وائی جلد ۲ صفحہ ۳۳۵“

انہوں نے عمومی انداز میں یہ الفاظ کہے ہوں گے تم ان کے مخاطب نہ تھے۔ تمہیں حضور اکرمؐ کے پاس جا کر اپنی غربت کی داستان ضرور سنانی چاہئے۔“
دوسرے دن صحابی پھر دربار نبوت میں حاضر ہوا اور رسول کریمؐ نے خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا: ”جو ہم سے سوال کرے گا تو ہم اسے عطا کریں گے اور جو سوال سے گریز کرے تو اللہ اسے غنی بنا دے گا۔“

صحابی نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو اسے یقین ہو گیا کہ آپؐ اسی سے ہی مخی طلب ہیں۔ صحابی کو آپؐ سے کچھ سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور مسجد سے اٹھ کر اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے کلمازی مانگی۔ کلمازی سے کہ جنگل میں چلا گیا اور سارا دن لکڑیاں کاٹتا رہا۔ شام کے وقت لکڑیاں بازار میں فروخت کیں تو اجرت کے طور پر اسے چند درہم ملے۔ اس نے گھر کے لئے آنا خرید اور اپنے گھر چلا گیا۔

پھر دوسرے دن علی الصبح اٹھ کر جنگل میں گیا اور پہلے سے زیادہ مقدار میں لکڑیاں کاٹیں اور بازار میں فروخت کیں۔ اسی طرح سے چند دن بعد اس نے اپنی کلمازی خرید لی اور آہستہ آہستہ اس کی دولت میں بھی اضافہ ہونے لگا اور چند ماہ بعد اس نے ایک غلام اور دو اونٹ خرید لئے اور یوں وہ زیادہ لکڑیاں بازار میں فروخت کرنے لگا۔ اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ پھر ایک دن اس نے حضور کریمؐ کے پاس جا کر اپنی پوری روئیداد بیان کی۔ یہ سن کر حضور اکرمؐ نے فرمایا ”من سألنا اعطیناه ومن استغنی اغناه اللہ“ ہم سے جو سوال کرے گا تو ہم اسے عطا کریں گے اور جو سوال سے گریز کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا۔“ (وائی جلد ۲ صفحہ ۱۳۹)

ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے حرص کی شکایت کرتے ہوئے کہا ”مولا میری حالت یہ ہے کہ میں تلاش معاش کرتا ہوں تو مجھے رزق مل جاتا ہے لیکن قناعت نصیب نہیں ہوتی اور نفس اس سے بھی زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے آپ میری رہنمائی فرمائیں تاکہ میرے اندر قناعت کا جذبہ پیدا ہو۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ”اگر بھدر ضرورت رزق سے تیری کفایت ہو سکتی ہے تو اس سے کم رزق سے بھی تیری کفایت ہو سکتی ہے۔ اگر بھدر ضرورت سے تمہاری کفایت نہیں ہوتی تو دنیا کا تمام رزق حاصل کر کے بھی تمہیں کفایت حاصل نہیں ہو سکتی۔“

عن حفص بن عیاض قال قال ابو عبد اللہ اذا اراد احدکم الایسنل ربہ شیئا الا اعطاه فلیاس من الناس کلہم ولا یكون له رجاء الا عند اللہ فاذا علم اللہ تعالیٰ ذالک من قلبہ لم یسنل اللہ شیئا الا اعطاه۔

”دانی جلد ۲ صفحہ ۳۳۵“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ”اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے عطا کرے تو اپنے آپ کو لوگوں سے ناامید کر لے اور اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی امید وابستہ نہ رکھے اگر اللہ نے اس کی دل کی سچائی کو ملاحظہ کیا تو وہ اللہ سے جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔“

عن ابی عبد اللہ طلب الحوائج الی الناس استلابا للفقراء، مزہبۃ للحیاء والیاس مما فی یدی الناس عز للمؤمن فی دینہ والطمع هو الفقر الحاضر۔

”اکافی جلد ۲ صفحہ ۱۳۸“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”لوگوں سے اپنی حاجات کا سوال کرنا عزت نفس کے ختم ہونے کا ذریعہ اور حیا کے تباہ ہونے کا سبب ہے اور لوگوں کے رزق سے ناامید ہونا مؤمن کے لئے دینی عزت کا سبب ہے اور طمع و لالچ ہر وقت کا فقر ہے۔“

عن عبد اللہ بن مثنان قال سمعت ابا عبد اللہ یقول ثلاث من فخر المؤمن وریسہ فی الاحرۃ، الصلوۃ فی احرا اللیل وباسہ ممافی یدی الناس و ولایتہ الامام من ال محمد علیہم السلام۔

”دانی جلد ۲ صفحہ ۳۳۳“

عبد اللہ بن مثنان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا آپ فرمایا کرتے تھے تین چیزیں مؤمن کے لئے دنیا و آخرت کا فخر اور زینت ہیں

(۱) رات کے آخر حصہ میں نماز شب پڑھنا۔

(۲) لوگوں کے رزق سے ناامید رہنا۔

(۳) خاندان پیغمبر میں سے امام کی امامت کا اعتراف کرنا اور اس سے محبت رکھنا۔

عن حابر الحمفی عن ابی جعفر قال یأس المرء عما فی یدی الناس اکثر من سحاء النفس والنذل ومرورۃ الصبر فی حال العاقبۃ والحاحۃ والتعفف والغناء اکثر من مرورۃ الاعطاء وحیر العمال الثقة باللہ والیاس عما فی یدی الناس

”دانی نقل رکابی صفحہ ۳۳۶“

جاہ جمععی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”لوگوں کے مال سے ناامید ہونا جان و مال کی سخاوت سے زیادہ بہتر ہے اور

تک دستی و غربت اور پاکدامنی اور بے نیازی کے وقت صبر، خشش سے زیادہ بہتر ہے اور بہترین ثروت و دولت اللہ پر بھروسہ کرنا اور لوگوں کے مال سے ناامید ہونا ہے۔“

باب ششم

لمبی آرزوئیں

﴿٤٤﴾ محدود عمر اور لامحدود آرزوئیں ﴿٤٥﴾

ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک مربع بنایا جس کی چاروں اطراف برابر تھیں اور مربع کے درمیان میں ایک نقطہ بنایا اور مربع کی چاروں سمتوں سے لکیریں بنائیں جو نقطہ کی طرف آ رہی تھیں اور نقطہ سے ایک لکیر کھینچی جو کہ بہت دور تک چلی گئی تھی۔

آپ نے یہ تصویر بنا کر صحابہ سے فرمایا: ”جانتے ہو یہ کیا ہے؟“

صحابہ نے عرض کی: ”اللہ اور رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا: ”یہ مربع انسانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے اور درمیانی نقطہ انسان ہے اور چاروں اطراف سے نقطہ کی طرف آنے والی لکیریں ان امراض و مصائب کو ظاہر کرتی ہیں جو انسان پر وارد ہوتی ہیں اور نقطہ سے نکل کر دور تک جانے والی لکیر انسان کی لامحدود آرزو کو ظاہر کرتی ہے، انسان کی آرزوئیں لامحدود اور اس کی زندگی محدود ہے اور کوئی شخص اپنی تمام آرزوئیں پوری کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔“ (کنز العمال بیہائی صفحہ ۴۳)

محدود عمر کا ایک نمونہ

شیخ بھائی سنگھول میں لکھتے ہیں کہ تبت میں یہ رواج تھا کہ ہر سو سال پورا ہونے پر وہاں ایک جشنِ عبرت منایا جاتا تھا جس میں چھوٹے بڑے اور مرد و عورت سب شرکت کرتے تھے۔

اس جشن میں بادشاہ کی طرف سے ایک شخص آواز دے کر کہتا تھا کہ حاضرین میں سے جس نے پچھلے جشنِ عبرت میں شرکت کی ہو وہ کھڑا ہو کر اپنے تاثرات بیان کرے۔

اس اعلان کے بعد بھی کوئی بیڑھا کھڑا ہو جاتا اور سنت کہ میں نے بچپن میں شرکت کی تھی۔ اس وقت میں کم سن پہ تھا اور اس وقت بادشاہ فلاں تھا اور وزیر فلاں تھا اور قاضی فلاں تھا۔

بعض اوقات کوئی بیڑھی عورت کھڑی ہو جاتی اور وہ اپنے تاثرات بیان کرتی اور کئی دفعہ ایسا اتفاق بھی ہوتا کہ کوئی شخص بھی کھڑا نہ ہوتا۔

پھر واعظ کھڑا ہو کر لوگوں کو درسِ عبرت دیتا اور غانی دنیا سے دل لگانے کی پاداش بیان کرتا اور کہتا: ”بھائیو! دیکھو اس صدی میں انہوں انسان پیدا ہوئے تھے اور آج سب کے سب پودے خاک ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کے نشان تک موجود نہیں ہیں۔ لوگو! یہ دنیا عبرت کا مقام ہے، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، تمہارے لئے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اپنی عمر رفتہ کی غلطیوں کا ازالہ کر لو اور غرباء و مساکین کی مدد کرو، تم سب کے پاس محدود عمر ہے اپنی دولت و جوانی پر غور نہ کرو۔“

مچھلی کی آرزو قبر میں لے گئی

مامون نے ملک روم کو فتح کرنے کے لئے لشکر کشی کی۔ بہت سا علاقہ فتح کیا۔ واپس پر اس کا گزر ایک چشمہ سے ہوا جسے ”بدیدون اور قشیرہ“ کہا جاتا ہے۔ اس مقام کی آب ہوا اتنی اچھی تھی کہ مامون نے حکم دیا کہ اس مقام پر ایک ماہ قیام کیا جائے تاکہ وہ اس صحت افزا مقام سے دل کھول کر استفادہ کر سکے۔

چشمہ کے قریب مامون کا خیمہ لگایا گیا۔ وہ چشمہ کے قریب کرسی پر بیٹھ کر دلفریب مناظر سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے چشمہ میں ایک درہم پھینکا تو پانی اتنا صاف تھا کہ اوپر سے اس کی تحریر پڑھی جاسکتی تھی اور چشمہ کا پانی اتنا عمدہ تھا کہ انسان اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔

ایک دن مامون چشمہ کے قریب بیٹھ کر مناظرِ فطرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اس نے چشمہ میں ایک مچھلی دیکھی جو طول میں آدھے بازو کے قریب تھی اور اس کا جسم چاندی سے زیادہ سفید تھا۔

مامون نے اعلان کیا: ”جو شخص یہ مچھلی پکڑ کر لائے گا تو میں اسے ایک کوار انعام میں دوں گا۔“

یہ سن کر ایک فوجی نے چشمہ میں چھلانگ لگائی اور مچھلی کو پکڑ کر مامون کے پاس لے آیا۔ مچھلی نے فوجی کے ہاتھ میں آزاد ہونے کے لئے زور لگایا تو مچھلی فوجی کے ہاتھ سے نکل کر چشمہ میں جا پڑی۔ چشمہ میں گرنے سے پانی کی چند بوئندیس مامون کے چہرے اور گردن اور ہاتھوں پر پڑیں۔ جس سے مامون کو سخت بخار ہو گیا۔ فوجی نے چشمہ میں دوبارہ چھلانگ لگا کر مچھلی پکڑی تو مامون نے حکم دیا کہ اسے حل کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔

مامون کو چہ لرزہ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اس پر جتنی خافیں ڈالی گئیں اس کے لرزہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ بلا آخر اس کی چارپائی کے ارد گرد لگائی جلائی گئی مگر مامون کا جسم پھر بھی گرم نہ ہوا۔ مچھلی کو تل کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو مامون اس قدر بے چین تھا کہ مچھلی کا ایک ذرہ بھی نہ کھا سکا۔

مامون کا بھائی معتمد باندہ، شاہی طبیب ابن ماسویہ اور بنتی شوح کو — کر مامون کے پاس آیا اور ان سے مامون کے علاج کی درخواست کی۔

جب اطباء نے اس کی نبض دیکھی تو کہا کہ ہم اس کے علاج سے عاجز ہیں۔ نبض کی حرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند گھنٹوں کا مسمان ہے۔

مامون کی حالت رفتہ رفتہ مزید خراب ہوتی گئی اور روغن زیتون کی طرح اس کے جسم سے پیوند خارج ہونے لگا۔

اس وقت مامون نے کہا: ”مجھے بلند ٹیلہ پر لے جاؤ تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے لشکر کا نظارہ کر سکوں۔“

مامون کو بلند ٹیلہ پر لے جایا گیا اس نے نظر کی تو اسے حد نظر تک اپنی فوج کے خیمے نظر آئے، اس وقت مامون نے کہا: ”یامس لایزول ملکہ ارحم من قد زال ملکہ“ اے وہ ذات جس کی شاہی کوزوال نہیں اس پر رحم کر جس کی شاہی زائل ہو چکی ہے۔“

اس وقت معتمد نے ایک شخص کو بھیجا کہ مامون کے قریب بیٹھ کر اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرے۔ وہ شخص مامون کے قریب بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنے لگا۔ مگر مامون اس وقت ہر چیز سے بے خبر ہو چکا تھا۔

ابن ماسویہ طبیب نے تلقین کرنے والے سے کہا کہ: ”اب اسے تیری

تلقین کی ضرورت نہیں ہے اس وقت یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کے لئے اس کے رب اور ”مائی“ میں کوئی فرق نہیں ہے۔“

مامون نے اس وقت آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں پھیل کر اتنی بڑی اور سرخ ہو چکی تھیں کہ دیکھنے والا ان کی تاب نہ لاسکتا تھا۔ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور مچھلی نہ کھا سکا اور (طوس) نامی مقام پر دفن ہوا۔ (سفینۃ البحار جلد الفظامن)

اسی فانی سلطنت کی حصول کے لئے مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا تھا اور اپنی سوتیلی ماں زبیدہ کو گرفتار کیا تھا اور اسی عارضی حکومت کے لئے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔

مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ جب مامون کے سامنے اس کے بھائی امین کا سر پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس سر کو ایک کتڑی پر نصب کیا جائے پھر تمام فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا انعام لینے کے لئے آئیں اور جب بھی کوئی فوجی آکر انعام لیتا تو مامون کتا کہ انعام سے پہلے اس سر پر لعنت کرو۔

چنانچہ مامون کے فوجی امین پر لعنت کرتے اور انعام لیتے رہے۔ اتنے میں ایک ایرانی سپاہی انعام لینے کے لئے آیا تو مامون نے کہا کہ انعام سے پہلے اس سر پر لعنت آرو۔

ایرانی سپاہی نے کہا: ”لعن اللہ هذا ولعن والديه وادخلهم لی کذا وکذا من امہا تہم“ اللہ اس سر والے پر لعنت کرے اور اس کے ماں باپ پر لعنت کرے اور انہیں دوزخ میں جگہ دے۔“

اس وقت مامون نے حکم دیا کہ امین کے سر کو صلیب سے اتارا جائے اور

اسے خوشبو لگا کر بند لو بھیج دیا گیا اور حکم دیا کہ اس سر کو اس کے دھڑ کے ساتھ دفن کیا جائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خزانہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر کہیں جا رہے تھے کہ ایک شہر کے قریب کھنڈرات میں انہیں ایک خزانہ ملا۔

حواریوں نے درخواست کی کہ: ”آپ ہمیں یہاں چند روز رہنے کی اجازت دیں تاکہ ہم اچھی طرح سے خزانہ کو جمع کر سکیں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”بہتر ہے تم یہ خزانہ سنبھالو اور میں شہر جاتا ہوں، وہاں میرا ایک قیمتی خزانہ موجود ہے، میں اس خزانے کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔“

یہ کہہ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام شہر آئے اور ایک ویران سے مکان کے دروازہ پر تشریف لائے ایک بوڑھی آئی تو آپ نے فرمایا ”اے ضعیف! میں آج رات آپ کا مہمان بنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے مہمان ٹھہرائیں گی؟“

ضعیف نے کہا: ”سر آنکھوں پر ہم آپ کو مہمان ٹھہرائیں گے۔“
آپ ضعیف کے گھر تشریف لے گئے اور ضعیف سے پوچھا: ”اس کھنڈر نما مکان میں تم اکیلی رہتی ہو یا تمہارے ساتھ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے؟“

ضعیف نے بتایا: ”میرا ایک جوان بیٹا بھی میرے ہمراہ ہوتا ہے۔ دن کے وقت وہ لکڑیاں کاٹنے کے لئے جنگل چلا جاتا ہے اور شام کے وقت لکڑیاں بیچ کر اپنے گھر آجاتا ہے۔“

کچھ دیر بعد وہ نوجوان گھر میں آیا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، جو شکل و صورت سے خدا کے مقرب نظر آتے ہیں۔ تم ان کی تشریف آوری کو اپنے لئے قیمت جانو اور ان سے فائدہ حاصل کرو۔

نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر بیٹھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو وہ جوان انہیں شائستہ نظر آیا، لیکن جناب عیسیٰ نے اس کی گفتگو کے انداز سے محسوس کیا کہ اس کے دل میں کوئی جبین اور پھانس موجود ہے۔

چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے فرمایا: ”میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ایک غلطی موجود ہے مجھے اپنی اس غلطی سے آگاہ کرو ممکن ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔“

نوجوان نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا: ”میری غلطی اور جبین کا علاج نہس موت سے ہی ممکن ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”تم اپنی غلطی بیان تو کرو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعہ سے تمہاری غلطی پوری ہو جائے۔“

یہ سن کر جوان نے کہا: ”ابے معزز مہمان! میں ایک دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار آ رہا تھا کہ میرا گزر بادشاہ کے محل سے ہوا، اتفاق سے میری نظر اس کی بیٹھوس پر پڑ گئی اور جب سے ان نگاہوں نے اس پر پیر کو دیکھا ہے تو دل کا آرام و سکون غارت ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اس ماہ روپ سے ہو جائے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”کوئی مسئلہ نہیں تم کل صبح بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرو۔ جو اب میں وہ جو کچھ بھی کے مجھے اس سے مطلع کرو۔“

نوجوان دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں گیا اور دربانوں سے درخواست کی کہ اسے بادشاہ سے ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی خواستگاری کرنا چاہتا ہے۔

دربانوں نے اس کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھا تو ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہنے لگے ”اچھا ہے اسے بادشاہ کی پاس بھیج دیا جائے تاکہ مذاق کا سامان پیدا ہو سکے۔“

نوجوان بادشاہ سے ملا اور اس سے اس کی بیٹی کا اپنے لئے رشتہ طلب کیا۔ بادشاہ نے اسے تالنے کے لئے جواہرات کی ایک بڑی مقدار کا مطالبہ کیا جسے کوئی سلطان ہی پورا کر سکتا تھا۔

وہ نوجوان بادشاہ کا مطالبہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا ”بادشاہ نے جواہرات کی بھاری مقدار طلب کی ہے جو کہ میرے بس میں نہیں ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”تم میرے ساتھ آؤ۔“

اسے ایک صحرا میں لے گئے جہاں بڑی مقدار میں سنگریزے پڑے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”تم ان سنگریزوں سے اپنی چادر بھر دو۔“

جب جوان نے سنگریزوں سے چادر بھری تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چادر میں سنگریزوں کے بجائے جواہرات چمک رہے تھے۔

چنانچہ نوجوان چادر بھر کر بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا ”لیجئے میں آپ کے مطالبہ سے بھی زیادہ مقدار میں جواہرات لایا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے خالی نہ لوٹائیں گے۔“

بادشاہ نے جواہرات کی اتنی بڑی مقدار دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، پھر اس نے کہا: ”اتنی ہی مقدار میں مجھے اور جواہرات کی ضرورت ہے، اگر تم اتنے جواہرات اور لانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروں گا۔“

نوجوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔

آپ نے فرمایا: ”ناپوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دوبارہ صحرا میں چلے جاؤ اور پھر اتنی ہی مقدار میں سنگریزے اکٹھے کر کے لے جاؤ۔ اللہ کے فضل سے وہ سنگریزے جواہرات کی صورت اختیار کر لیں گے۔“

نوجوان نے حسبِ حکم سنگریزوں کو جمع کیا اور انہیں چادر میں ڈالا تو سنگریزے جواہرات میں بدل گئے۔ نوجوان خوش ہو کر دوسری گٹھری بھی بادشاہ کے پاس لے گیا۔

بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا: ”تم شکل و صورت سے انتہائی غریب نظر آتے ہو تمہارے پاس اتنا بوا خزانہ کیسے آگیا؟“

نوجوان نے بادشاہ کو بتایا: ”میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمام مہربانی میرے ایک مہمان کی ہے۔“

بادشاہ سمجھ گیا کہ اسکے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں۔

بادشاہ نے کہا: ”آپ اپنے مہمان کو لے کر آجائیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا عقد تم سے کر دوں گا۔“

نوجوان واپس آیا اور مہمان سے اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کے ساتھ دربار تشریف لے گئے۔

بادشاہ نے ان کا شایان شان استقبال کیا اور وعدہ کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کر دی۔ پھر اس نے اپنے داماد کو شاہی لباس پہنایا اور رہائش کے لئے اپنے محل میں انہیں جگہ دی۔

بادشاہ نے جب اپنے داماد سے گفتگو کی تو اسے اپنا داماد بڑا شائستہ اور معقول انسان نظر آیا۔ بادشاہ کی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ اللہ نے اسے بس ایک ہی بیٹی عطا کی تھی۔

بادشاہ نے اپنے داماد کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ اتفاق سے ولی عہدی کے اعلان کے دوسرے ہی دن بادشاہ کی وفات ہو گئی اور اس کا داماد کرسی اقتدار پر متمکن ہوا۔

جناب عیسیٰ علیہ السلام نئے بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لئے اس کے پاس گئے تو بادشاہ پاپیادہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ انہیں تخت شاہی پر بٹھایا۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جانے کے لئے رخصت طلب کی تو نوجوان بادشاہ نے کہا ”حضرت! کل رات سے میں ایک مسئلہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں امید ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”تم اپنا سوال بیان کرو۔“

بادشاہ نے کہا: ”میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ آپ اتنے بڑے صاحب

اعجاز ہیں کہ سنگریزوں کو جواہرات میں بدل دیتے ہیں اور چاہیں تو ایک لکڑہارے کو بادشاہ کا داماد بنا سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ درویشی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”میں نے عشق الہی کا وہ جام پیا ہوا ہے کہ جس کے سامنے اس چند روزہ شاہی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔“

نوجوان بادشاہ یہ سن کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی: ”حضرت! پھر آپ نے مجھے اس جام معرفت سے کیوں محروم رکھا ہے اور مجھے اس کی جائے شاہی کے گورکھ دھندوں میں لگا دیا ہے۔ مجھے شاہی نہیں چاہئے مجھے رب العالمین کے در کی گدائی چاہئے۔“

پھر نوجوان نے تخت و تاج چھوڑ دیا اور تین دن پہلے والا لباس پہنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جوان کو لے کر وہاں آئے جہاں حواری موجود تھے، آپ نے حواریوں سے فرمایا: ”تم نے اپنا خزانہ جمع کر لیا ہے۔“

حواریوں نے کہا: ”جی ہاں! ہم نے تمام خانہ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ جس خزانہ کی تلاش کے لئے شہر روانہ ہوئے تھے تو آپ کو آپ کا مطلوبہ خزانہ ملا یا نہیں؟“

آپ نے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”میں اس خزانہ کی تلاش میں گیا تھا اور میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔“ (حارر انوار جلد ۱۳ صفحہ ۲۸۴)

ایک انگوٹھی اور جنت کا محل

ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد بزرگوار سے ایک انگوٹھی کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا: "میں تمہیں انگوٹھی سے بہتر عطیہ نہ بتاؤں؟"

جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی: "بیبا جان! یہ تو اور مناسب ہے۔"

آپ نے فرمایا: "جب تم نماز شب پڑھو تو اللہ سے درخواست کرو وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز فراہم کرے گا۔"

جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے نماز شب پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک انگوٹھی کی درخواست کی تو اس وقت انہیں ایک ہاتھ نہیں کی صدا سنائی دی کہ فاطمہ کی مطلوبہ چیز مصلیٰ کے نیچے موجود ہے۔

جب حضرت سیدہ نے مصلیٰ اٹھا کر دیکھا تو مصلیٰ کے نیچے انہیں ایک پیش بہا یا قوت نظر آیا۔ آپ نے یا قوت اٹھا لیا اور جب آپ دوسری شب سوئیں تو خواب میں انہوں نے جنت الفردوس کی سیر کی ایک مقام پر تشریف آئیں دیکھا کہ ایک تخت رکھا ہے جس کے تین پائے ہیں۔

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا: "یہ تخت کس کا ہے؟"

حوروں نے بتایا: "یہ تخت آخری رسول کی پیش کا ہے۔"

جناب سیدہ نے پوچھا: "اس کے پائے تین کیوں ہیں چار کیوں نہیں؟"

حوروں نے بتایا: "اس کی مالکہ نے دنیا میں رہ کر ایک یا قوت منگوایا ہے

اسی لئے اس کے چار کی جائے تین پائے ہیں۔"

یہ خواب دیکھ کر حضرت سیدہ خواب سے بیدار ہوئیں اور پورا خواب اپنے کریم والد کو سنایا۔ آپ نے فرمایا "معاشرال عبدالمطلب لیس لکم الدنیا انما لکم الاخرة و معادکم الجنة ماتصنعون بالدنیا فانہا زائلۃ" اے آل عبدالمطلب کے گروہ! دنیا تمہارے مقدر میں نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لئے آخرت رکھی ہے۔ تم دنیا لے کر کیا کرو گے؟ وہ تو بہت جلد زائل ہونے والی ہے۔"

پھر آپ نے فرمایا: "بیبا جان! اس یا قوت کو وہاں رکھ دو جہاں سے تمہیں یہ ملتا تھا۔"

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے یا قوت اٹھا کر مصلیٰ کے نیچے رکھ دیا۔ اگلی رات پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو وہی خواب نظر آیا اور تخت پر نظر پڑی تو اس کے چاروں پائے موجود تھے۔

جناب سیدہ نے حوروں سے پوچھا: "ایک دن قبل اس تخت کے پائے تین تھے اور آج چار کیسے ہو گئے؟"

حوروں نے عرض کی: "اس کی مالکہ نے وہ یا قوت واپس کر دیا تو اس کے پائے مکمل ہو گئے۔"

دنیاوی گھر کا حدود اربعہ

روایت ہے کہ امیر المؤمنین کے قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور حکومت میں ایک مکان اسی دینار میں خریدا۔ حضرت کو اس کی خبر ہوئی تو انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا: "مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسی دینار میں ایک مکان خریدا

ہے اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی دلوائی ہے؟“

شریح نے کہا: ”جی ہاں! امیر المؤمنین ایسا ہی ہوا ہے۔“

راوی کتا ہے اس پر حضرت امیر المؤمنین نے انہیں غصہ کی نظر سے دیکھا اور فرمایا ”دیکھو! جب جلد ہی وہ ملک الموت تمہارے پاس آجائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا اور نہ تم سے گواہوں کا پوچھے گا اور وہ تمہارا پورا بستر بہہ ہوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے گا۔“

اے شریح دیکھو! ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو، یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو؟ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔

دیکھو! اگر اس کی خریداری کے وقت تم میرے پاس آئے ہوتے تو میں اس وقت تمہارے لئے ایسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم ایک درہم بلکہ اس سے بھی کم قیمت کے گھر کو خریدنے پر تیار نہ ہوتے۔

وہ دستاویز یہ ہیں: یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بدمعے نے ایک ایسے بدمعے سے جو کہ سفر آخرت کے لئے پابہ رکاب ہے خریدا ہے، ایک ایسا گھر جو دنیائے بد فریب میں مرنے والوں کے محل اور ہلاک ہونے والوں کے خطہ میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ یہ ہیں: پہلی حد آنتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے اور تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچتی ہے اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فریب خوردہ، امید و آرزو نے اس شخص سے کہ جسے موت دھکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے۔ اس قیمت

پر کہ اس نے قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھالیا اور طلب و خواہش کی ذلت میں جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسم کو تہ و بالا کرنے والے، گردن کشوں کی جان لینے والے اور قیصر و کسری اور تنج و تمیر جیسے فرماں رواؤں کی سلطنتیں الٹ دینے والے اور مال سمیٹ سمیٹ کر اسے بڑھانے، لوٹنے اونچے اونچے محل بنانے سنوارنے اور انہیں فرش و فرش سے سجانے اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم کرنے اور جاگیریں بنانے والوں سے سب کچھ چھین لینے والے کے ذمہ ہے کہ وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کرے، اس وقت جب حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ ہوگا اور باطل والے وہاں خسارے میں رہیں گے۔

اس عقل پر گواہ رہنا! جب وہ خواہشوں کے بندھن سے الگ اور دنیا کی دالہ مسیحوں سے آزاد ہو جائے۔“ (نیج البلاغہ صفحہ ۶۳۹ ترجمہ مفتی جعفر حسین)

ایک روزہ حکومت کی آرزو

ایک شخص کو حکومت کے حصول کا بڑا شوق تھا اور ہمیشہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ: ”کاش! مجھے ایک دن کی حکومت مل جائے تو میں بھی ان لذائذ سے مستفید ہو سکوں جن سے بادشاہ مستفید ہوتے ہیں۔“ وہ شخص جہاں بھی بیٹھتا اپنے اس شوق کا بصد حسرت اظہار کرتا، لوگ اس کی یہ حسرت سن کر ہنستے تھے، اس کی یہ حسرت امرائے دربار تک بھی پہنچ گئی اور انہوں نے ایک دن بادشاہ کو اس شخص کی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اس جوان کو بلایا اور کہا: ”میں نے سنا ہے تجھے ایک روزہ

حکومت کا بڑا شوق ہے؟“

جوان نے کہا: ”جی ہاں! یہ سچ ہے۔“

بادشاہ نے کہا: ”اے نادان شخص! ایک دن کی بادشاہی سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟“

جوان نے کہا: ”میں میرے دل کی یہ شدید ترین خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی زندگی میں کم از کم ایک دن کے لئے ان نعمت و لذات سے متمتع ہو سکوں جن سے سلطان متمتع ہوتا ہے۔“

بادشاہ نے کہا: ”تو بس ٹھیک ہے کل صبح یہاں آ جانا ہم تجھے ایک دن کی شاہی دیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سن لے کہ سارا دن تجھے تخت پر ہی بیٹھنا ہوگا۔“

جوان کو فرط مسرت سے رات کو نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو جوان بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے ایک دن کے لئے خلعت شاہی پہنائی جائے اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے۔ پھر جوان کو حکم دیا کہ وہ تخت شاہی پر بیٹھ جائے۔

جوان خوش ہو کر تخت پر بیٹھا اور بادشاہ سے پوچھا کہ: ”اب آپ بتائیں تخت پر بیٹھ کر آپ کس چیز سے لطف اٹھاتے تھے؟“

بادشاہ نے کہا: ”میں موسیقی سے لطف اندوز ہوتا تھا۔“

ایک روز بادشاہ نے حکم دیا: ”ہمیں بھی موسیقی سے لطف اندوز کیا جائے۔“ تھوڑی سی دیر میں موسیقار اور قوال آگئے۔

اتنے میں ایک وزیر نے ایک روز بادشاہ کو متوجہ کیا کہ وہ اپنے سر کے

لو پر نگاہ کرے۔

جوان نے جب لو پر نگاہ کی تو اس کی اوسان خطا ہو گئے اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر زہر میں سمجھا ہوا تیز خنجر، ایک میٹر بلندی پر لٹک رہا ہے اور جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ وہ خنجر بالکل بال جیسی باریک اور کمزور سی ہے، بدھا ہوا تھا جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھی اور خنجر کسی بھی وقت اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا تھا۔

سر پر لٹکتا ہوا خنجر دیکھ کر اس کے تمام جذبات سرد ہو گئے اور جیسے ہی سازندوں نے طبلہ بجا کر شروع کیا تو اس نے انہیں سمجھایا کہ وہ آہستگی سے طبلہ جائیں ایسا نہ ہو کہ طبلے کے شور سے وہ کمزور سی رسی ٹوٹ جائے اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔

بچارہ خنجر کی وجہ سے سخت پریشان رہا اور جب اس کے سامنے شاہی کھانا رکھا گیا تو وہ لقموں سے زیادہ نہ کھا سکا اور جیسے ہی کوئی شخص دربار میں داخل ہوتا اور دروازہ کھلتا تو اس کے دل میں یہ کھٹکا ہوتا کہ کہیں کمزور سی ٹوٹ نہ پڑے۔

الغرض سارا دن وہ سخت بے چینی کا شکار رہا اور اس کے لئے ایک ایک منٹ کا گزارنا مشکل ہو گیا۔ اتنے ایک لمحہ بھی صدیوں کی طرح بھاری نظر آیا۔ وہ دل میں دعا مانگتا رہا کہ خدا کرے کہ اس کی زندگی کا یہ منحوس ترین دن جلد ختم ہو تو اسے اس سخت سے رہائی نصیب ہو۔

آخر کار دن غروب ہوا۔ ایک روز بادشاہ تخت سے نیچے آیا تو اس کی جان میں جان آئی اور اپنی سلامتی پر خدا کا شکر لیا۔

پھر اس ایک روز سلطان نے اصلی سلطان سے کہا: ”آپ نے خنجر لٹکا کر

جس طرح سے مجھے بے چین کیا ہمارے معاہدہ میں یہ خنجر شامل نہ تھا۔“

بادشاہ نے کہا: ”جو ان! یہ سچ ہے کہ جب میں تخت پر بیٹھتا ہوں تو میرے سر پر یہ خنجر موجود نہیں ہوتا لیکن تم یقین کرو کہ اس تخت پر بیٹھ کر میرا دل بھی تمہاری طرح پریشان رہتا ہے کیونکہ سلطنت کے ہزاروں اندرونی مسائل ہیں اور بیرونی دشمنوں اور آستین کے سانپوں سے مجھے ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ میں نے اس خطرے کے اظہار کے لئے خنجر آویزاں کر لیا تھا تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ سلطنت و حکومت فرش گل نہیں ہے بلکہ زرین منقش ہے۔ سارا دن مجھے اس تخت پر چین میسر نہیں آتا۔ یہ میری حالت ہے اور میں ایک دنیا طلب شخص ہوں اور اگر میں یہ حکومت و سلطنت کسی خدا ترس شخص کے ہاتھ میں دوں تو اسے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے رات کو بھی آرام میسر نہیں آئے گا۔“ (انوار نعمانیہ صفحہ ۲۲۰)

زندگی کی بہاریں آرزو سے قائم ہیں

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیچے اٹھائے اپنی زمین سے جزی بنیاں صاف کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ دعا کے فوراً بعد بوڑھے نے بیچے زمین پر رکھا اور آرام کرنے لگ گیا۔

کچھ دیر کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ وہ اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر دے۔ آپ نے جیسے ہی یہ دعا مانگی تو بوڑھا

اپنے مقام سے اٹھا اور بیچے اٹھا کر دوبارہ محنت میں لگ گیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بوڑھے کے پاس گئے اور پوچھا: ”تم نے بیچے

ایک دفعہ زمین پر کیوں رکھا اور پھر تم نے دوبارہ کیوں اٹھایا؟“

بوڑھے نے کہا: ”میں کام کر رہا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ

میں ایک سن رسیدہ شخص ہوں، کہاں تک محنت کی زحمت برداشت کرتا رہوں گا

ممکن ہے کہ میں ابھی مرجاؤں تو یہ محنت میرے کس کام آئے گی؟ یہ سوچ کر

میں نے بیچے زمین پر رکھ دیا تھا۔ اس کے چند لمحے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا

کہ تو اس وقت زندہ ہے اور ہر زندہ شخص کے لئے وسائل زندگی کی ضرورت

ہوتی ہے اگر تو کام نہیں کرے گا تو پھر وسائل زندگی سے محروم ہو جائے گا اور

روٹی کہاں سے کھائے گا؟ چنانچہ میں یہ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بیچے ہاتھ میں

لے کر دوبارہ محنت کرنے لگا۔“ (سفینۃ البحار جلد ۱ صفحہ ۳۱)

ایک آرزو اور سو کوڑے

ایک دن حجاج بن یوسف بازار سے گزر رہا تھا اس نے ایک دودھ فروش کو

دیکھا کہ اس نے اپنے سامنے دودھ کی بالٹی رکھی ہوئی تھی اور اپنے آپ سے

آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا:

”اس بالٹی کا اتنا منافع ہوگا، پھر میں اور دودھ لے کر فروخت کروں گا،

اس سے مجھے مزید منافع ہوگا، آخر کار میں ایک بھیڑ خرید لوں گا، پھر اس کا دودھ

بیچ کر ایک بحری، پھر ایک گائے خرید لوں گا اور یوں میرا کاروبار ایک دن عروج

تک پہنچ جائے گا اور میرا شمار کوفہ کے دولت مندوں میں ہونے لگے گا، اس کے

بعد میں حجاج بن یوسف کی بیٹی سے شادی کروں گا اور اعیان مملکت مجھ سے خوف زدہ ہوں گے، اگر کسی دن حجاج کی بیٹی نے میری اطاعت میں کمی کی تو میں اسے انکی لات ماروں گا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔“

یہ کہہ کر اس نے لات ماری اور لات دودھ کی بالٹی کو لگی تو سارا دودھ زمین پر بہ گیا۔

حجاج نے جو یہ منظر دیکھا تو دو سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس احق کو پکڑ کر سر بازار ایک سو کوڑے لگائیں۔

دکاندار بے چارہ جس کا پہلے ہی دودھ زمین پر بہ چکا تھا اس تازہ افتاد سے بدایا پریشان ہوا اور کہا: ”مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟“

حجاج نے کہا: ”تمہیں یہ سزا حجاج کی بیٹی کی پسلیاں توڑنے پر مل رہی ہے۔“

چند روایات

قال امیر المؤمنین علیہ السلام وانما هلك من كان قلبكم بطول امالهم و تغيب اجالهم حتى نزل بهم الموعد الذي ترد المعذرة و ترفع عنده التوبة و نحل معه القارة و النعمة و قال ايضا من ايقن انه يفارق الاحباب و يسكن التراب و يواجه الحساب و يستغنى عما خلف و يفتقر الى ما قدم كان حوريا بقصر الامل و طول العمل.

”نہج البلاغہ - کلمات قصار“

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: ”تم سے پہلی امتیں اپنی لمبی آرزوں اور اپنی

موت کے وقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، یہاں تک کہ ان کو موت آگئی جو معذرت کو مسترد کر دیتی ہے اور اس کے آنے سے توبہ کی قبولیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے۔“

آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا: ”جسے یہ یقین ہو کہ وہ دوستوں سے جدا ہوگا اور خاک میں رہائش پذیر ہوگا اور اسے حساب دینا ہوگا اور اسے اس کی چھوڑی ہوئی دولت فائدہ نہ دے گی اور اسے آگے بھیجی ہوئی دولت کام آئے گی۔ تو ایسے شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ آرزوؤں کو گھٹائے اور اعمال کو بڑھائے۔“ (سفینۃ البحار)

عن ابی عبداللہ عن ابانہ قال قال علی ما نزل الموت حق منزلته من عد غدا من اجله و قال علی ما اطال العبد الامل الاساء العمل و كان يقول علیہ السلام لو اى العبد اجله و سرعته اليه لا بغض الامل و طلب الدنيا.

”حدیث الانوار جلد ۱۵، جلد ۲ صفحہ ۱۰۷“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جس نے آنے والے کل کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیا تو اس نے موت کو اچھی طرح سے نہیں پہچانا۔“ آپ نے فرمایا: ”جس شخص نے بھی لمبی آرزوئیں کیں تو اس نے عمل برے کئے۔“

آپ فرمایا کرتے تھے: ”اگر انسان اپنی موت کو دیکھ لے اور اس کی تیز رفتاری کا مشاہدہ کر لے تو اپنی آرزو اور طلب دنیا کو ناپسند کرے گا۔“

عن الصادق علیہ السلام ان الله يقول و عزتی و جلالی و مجددی و ارتعاعی

على عرشى لا قطعن امل كل مؤمل دونى ولا كونه ثوب المدلة عند الناس ولا
 نحينه من قوبى ولا بعدنه من وصلى ايامل عبرى فى الشدانء و الشدانء بىدى
 وىر جو عبرى وىقرع بالفكر باب عبرى و بىدى مفاتىح الابواب.

”سفيء الحمد جلد ۱ صفء ۳۱“

امام صادق عليه السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”مجھے اپنی عزت و جلال
 بزرگی اور عرش پر بلندی کی قسم ہے جو بھی میرے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ
 کرے گا تو میں اس کی امید کو قطع کر دوں گا اور لوگوں کی نظر میں اسے ذلت کا
 لباس پہناؤں گا اسے اپنے قرب سے ہٹاؤں گا اور اسے اپنے وصل سے دور کر دوں
 گا، مشکلات و مصائب کے وقت وہ میرے غیر سے امید رکھتا ہے جب کہ
 مشکلات و مصائب میرے ہاتھ میں ہیں (اور وہ کتنا احسن ہے) جو میرے غیر کے
 دروازہ پر دستک دینے کی سوچتا ہے جب کہ تمام دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ
 میں ہیں۔“

باب ہفتم

ظلم و ستم

جیسے عمل ویسے حاکم

حجاج بن یوسف کا شمار دنیا کے بدترین ظالم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس
 نے اپنے دور اقتدار میں ہزار ہا انسانوں کو قتل کیا اور لاکھوں انسانوں کو ناجائز قید
 کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے: ”و كذلك نولي بعض
 الظالمين بعضاً“ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے
 ہیں۔“

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ”اعمالکم عما
 لکم“ تمہارے عمل ہی تمہارے حاکم ہیں۔“

مقصد یہ ہے کہ اگر رعایا نیک دل ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں حکمران بھی ایسے
 عطا کرتا ہے اور جب رعایا کی اکثریت خراب ہو جائے تو اس وقت خداوند عالم کی
 طرف سے انتقام کا کوڑا بلند ہوتا ہے اور ظالم حکمران ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔
 جس معاشرہ کی اکثریت میں فساد پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ظالم حکمران
 مسلط ہو جائے تو پھر اس معاشرہ کے شرفاء کے لئے بھی مصائب و آلام بڑھ
 جاتے ہیں جیسا کہ دور حجاج کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے دور ستم میں

صرف گناہگار ہی اس کا نشانہ نہیں بنے بلکہ سعید بن جبیر جیسے سینکڑوں بے گناہ افراد بھی اس کے ظلم کا نشانہ بنے تھے اور اس ملعون کے ہاتھوں انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا تھا۔

یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ: ”سارا جہاں اپنے خبیث لے کر آئے اور ہم صرف حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلہ میں پیش کریں تو یقیناً ہمارے خبیث کا پلہ بھاری رہے گا۔“

حضرت علی علیہ السلام نے اہل عراق کو اس ظالم کے اقتدار کی خبر دی تھی اور فرمایا تھا: ”تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے عنقریب اللہ تعالیٰ قبیلہ ثقیف کے ایک جوان کو تم پر مسلط کرے گا جو کسی پر رحم نہیں کھائے گا اور کسی کی معذرت قبول نہیں کرے گا۔“

ایک دن شعبی حجاج کے پاس گئے اور اسے ظلم و ستم سے باز رہنے کی نصیحت کی تو حجاج نے سونے کا ایک دینار اٹھایا اور اس کا وزن کیا اور کسوٹی پر پرکھا تو وہ دینار ہر لحاظ سے کامل تھا۔ پھر اس نے وہی دینار شعبی کو دے کر کہا کہ: ”اسے صرافوں کے پاس لے جاؤ اور اس کا وزن کرو۔“

شعبی وہ دینار لے کر صرافوں کے پاس گئے اور اس کا وزن کرنے کی درخواست کی تو ہر صراف نے اپنی پخت کے لئے اس کا وزن کم بتایا اور قیمت کم لگائی۔

آخر میں شعبی وہی دینار لے کر حجاج کے پاس آیا تو حجاج نے کہا: ”شعبی! تم مجھے ظلم و ستم سے باز رکھنا چاہتے ہو اور اس شہر کے لوگوں کی دیانت داری تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ یہاں ہر دکاندار کسی نہ کسی بہانہ سے

گاہک کو لوٹا چاہتا ہے اور قدرت کا یہ اہل قانون ہے کہ جب معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو وہ مجھ جیسے ظالم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔“

شامتِ اعمال ماصورت نادر گرفت

مسندِ ظلم

ایک دن بھلول ہارون کے دربار میں گئے اس وقت ہارون تخت پر موجود نہیں تھا۔ تخت خالی دیکھ کر بھلول بیٹھ گئے۔ پاسبانوں نے جب بھلول کو ہارون کے تخت پر بیٹھا دیکھا تو بھلول کو تازیانہ مار کر تخت سے اتار دیا۔ بھلول تخت سے اتر کر دربار کے کونے میں جا کر رونے لگے۔

تھوڑی دیر بعد ہارون الرشید دربار میں آیا تو بھلول کو روتے ہوئے دیکھا، پاسبانوں سے پوچھا: ”بھلول کیوں رورہے ہیں؟“

پاسبانوں نے بتایا: ”یہ آپ کے تخت پر بیٹھ گیا تھا اسی لئے ہم نے اسے تازیانے مار کر اتار دیا، اب یہ اسی لئے رورہا ہے۔“

ہارون الرشید نے بھلول سے کہا کہ: ”بھلول تم آج یہ غلطی نہ کرتے تو تازیانے نہ کھاتے، اب کیوں رورہے ہو؟“

بھلول نے کہا: ”بادشاہ میں اپنے لئے تھوڑا ہی رو رہا ہوں بلکہ میں تو تمہارے لئے رو رہا ہوں۔“

ہارون نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“

بھلول نے کہا: ”میں چند لمبے اس تخت پر بیٹھا تو مجھے اتنے تازیانے لگے اور تو کئی سال سے اس تخت پر بیٹھا ہے خدا جانے تجھے کتنے تازیانے لگیں گے؟“

مکافاتِ عمل سے غافل نہ رہو

ابو عمرو کا تعلق کوفہ کے مشاہیر سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن کوفہ کے دار الامارہ میں عبدالملک بن مروان کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر لایا گیا۔ عبدالملک اپنے دشمن کا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔

یہ منظر دیکھ کر میری نظروں میں انقلاب زمانہ کی تصویر پھر گئی اور میرے پورے وجود پر کچھ جھاگنی اور میرا چہرہ زرد ہو گیا۔

عبدالملک بن مروان نے کہا: ”ابو عمرو! تو اتنا پریشان کیوں ہو گیا؟“

میں نے کہا: ”میں انقلاب زمانہ کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔“

اس نے کہا: ”تو نے کیا دیکھا ہے؟“

میں نے کہا: ”میں ایک دن عبید اللہ بن زیاد کے پاس اسی دار الامارہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے بعد میں اسی قصر میں بیٹھا تھا کہ تخت پر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی بیٹھا تھا اور اس کے سامنے لکن زیاد کا سر تھا۔

اس کے بعد گردشِ افلاک نے مجھے یہ منظر بھی دکھایا کہ تخت پر مصعب لکن زبیر تھا اور اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر تھا اور آج تخت پر آپ ہیں اور آپ کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر ہے۔ مجھے تو آپ کا خطرہ ہے کہ کہیں آپ کا انجام بھی اپنے پچھلے والوں سا نہ ہو؟“

عبدالملک یہ سن کر سخت گھبرا گیا اور حکم دیا کہ ”اس محل اور دار الامارہ کو گرا دیا جائے تاکہ یہاں پانچواں سر پیش نہ ہو۔“

مکافاتِ عمل کی ایک اور داستان

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ پہاڑ کے کنارے انہیں چشمہ نظر آیا۔ آپ نے اس چشمہ کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔

اسی دوران ایک گھڑ سوار شخص آیا اس نے چشمہ سے پانی پیا لیکن جاتے وقت اپنی رتم کی تھیلی اٹھانا بھول گیا۔ اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چرواہا لڑکا چشمہ پر آیا تو اس نے رتم سے بھری ہوئی تھیلی دیکھی تو اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔

لڑکے کے جانے کے بعد ایک ضعیف شخص اس چشمہ پر آیا۔ ضعیف آدمی کے چہرہ سے غربت کے آثار نمایاں تھے اور اس نے لکڑیوں کا ایک گھڑا اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے آکر پانی پیا اور ستانے کی غرض سے چشمہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ راستے میں گھڑ سوار کو اپنی رتم کی تھیلی یاد آئی تو اس نے گھوڑا واپس موڑا اور چشمہ پر پہنچ گیا اور اس نے چشمہ کے کنارے لکڑہارے کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اس سے اپنی رتم کا مطالبہ کیا۔

لوڑھے نے کہا کہ مجھے رتم کے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔

مگر گھڑ سوار نہ مانا۔ پھر ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ گھڑ سوار نے لوڑھے کو اتنا مارا چنانکہ اس کی روح پرواز کر گئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ بے نیاز میں عرض کی: ”پروردگار یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے تھیلی اٹھانے والا کوئی اور تھا اور قتل ہونے والا کوئی اور ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے موسیٰ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ میرے عدل

کے عین مطابق ہے کیونکہ کسی زمانہ میں اس بوڑھے نے گھڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، لہذا بوڑھا قصاص میں مقتول کے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا اور چرواہے کے باپ کو گھڑ سوار کے باپ سے اتنی ہی رقم قرض لینا تھی مگر اس نے قرض واپس نہیں کیا تھا، لہذا آج قرض خواہ کے بیٹے نے مفروض کے بیٹے سے اپنا قرض وصول کر لیا ہے۔“ (سفینۃ البحار جلد ۲ صفحہ ۴۳۳)

منصور دوانیقی کے مظالم کی ایک جھلک

منصور دوانیقی بنی عباس کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اسی نے اولاد علیؑ اور اولاد عباسؑ میں تفرقہ ڈالا تھا۔ ورنہ عام طور پر اس سے پہلے علوی اور عباسی ایک دوسرے کے دوست ہوتے تھے۔

منصور ۱۳۰ھ میں حج کے لئے مکہ آیا۔ عبداللہ بن حسن کو گرفتار کیا اور دوسرے حسنی سادات کی گرفتاری کا بھی حکم جاری کیا۔ جس کی وجہ سے ابراہیم اور ابو بکر اور جعفر بن حسن گرفتار ہوئے۔ منصور نے حکم دیا کہ انہیں زندان میں سخت اذیت دی جائے۔ یہ سادات منصور کی قید میں رہے اور ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔

منصور ۱۳۲ھ میں حج کے لئے آیا لیکن وہ مدینہ نہ آیا۔ ربذہ میں اس نے اپنے خیمے لگائے اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بچے کچھ حسنی سادات کو مدینہ سے گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔

منصور کے فوجیوں نے جن جن کو حسنی سادات کو گرفتار کیا اور انہیں کوڑے مارتے ہوئے مدینہ سے باہر لے گئے۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ امام جعفر

صادقؑ بے ساختہ رو دیئے اور انصار مدینہ کو بددعا دی کیونکہ انہوں نے رسول خداؐ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی اور ان کی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ اسی مشاہدہ ظلم کی وجہ سے امام جعفر صادقؑ تیس دن تک ہمدرد رہے۔

جب قیدی ربذہ پہنچے تو ظالم نے حکم دیا کہ انہیں دھوپ میں کھڑا کیا جائے۔ اتنے میں ایک فوجی نے آکر کہا: ”تم میں محمد بن عبداللہ کون ہے؟“

سید محمد دیباج نے کہا: ”میں ہوں۔“

فوجی اسے پکڑ کر منصور کے پاس لایا۔ اس کے پہنچنے ہی تازیانوں کی صدا بلند ہوئی اور انہیں اتنے تازیانے لگائے گئے کہ ان کی آنکھ کا ایک ڈھیلا باہر نکل آیا۔ محمد دیباج بنی حسن میں سب سے زیادہ حسین شمار ہوتے تھے لیکن تازیانوں کی وجہ سے ان کا بدن کونکہ کی طرح سیاہ ہو گیا اور خون کی وجہ سے ان کا پیرا بہن ان کی پشت سے چپک گیا تھا اور کسی طرح سے اترنے میں نہ آتا تھا تو روغن زیتون کی مالش سے اسے اتارا گیا۔

منصور نے حکم دیا کہ حسنی سادات کو سرو پا بربند کر کے طوق و زنجیر میں قید کر کے بے پالان اونٹوں پر سوار کیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کے تحت سادات کو بے پالان و کجاہ اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ منصور حریر و دیا سے آراستہ محمل پر سوار ہو کر ان قیدیوں کے پاس سے گزرا تو عبداللہ بن حسن نے زور سے پکار کر کہا ”منصور ہم نے جنگ بدر میں تمہارے قیدیوں سے یہ سلوک نہیں کیا تھا۔“ (حمزۃ المنتہی صفحہ ۱۳۳)

(عبداللہ بن حسن کا اشارہ عباس بن عبدالمطلب کی گرفتاری کی طرف تھا۔ جس کا ذکر ہماری کتاب کی پہلی جلد کے باب صلۃ رحم میں گزر چکا ہے)

حجاج ملعون کا انجام

راغب اصفہانی اپنی کتاب محاضرات میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حجاج اپنے گھر سے جامع مسجد کی طرف گیا تو اس نے ایک بہت بڑی جماعت کے رونے پینے کی صدا سنی، پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ قیدیوں کی صدا ہے جو دھوپ کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔

اس ملعون نے کہا: "اخصاؤ فیہا ولا تکلمون" دور ہو جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو۔"

وضاحت: حجاج نے جو الفاظ کہے تھے یہ دراصل سورہ مومنوں کی ایک آیت ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب دوزخی جہنم سے نکلنے کی خواہش کریں گے تو رب العزت کا فرمان ہو گا کہ دور ہو جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو۔

لفظ "اخصاؤ" عربی لغت میں کہتے کو دھتکارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں ایک لاکھ بیس ہزار مرد اور بیس ہزار عورتیں تھیں اور ان میں چار ہزار ایسی عورتیں تھیں جن کے تن پر لباس نہیں تھا اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں مقید تھے۔ قید خانہ کی چھت نہیں تھی جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لئے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرہ کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اسے پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا تھا اور پینے کے لئے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔

حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اپنے لئے اعزاز سمجھتا تھا۔

ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کیلئے

من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کیلئے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا اور اس لعین نے انہی روٹیوں سے سحری و افطاری کی۔ اس ملعون کو اس بات کا ہمیشہ قلق رہتا تھا کہ وہ واقعہ کربلا میں موجود نہ تھا ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔

حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی تھی جہاں وہ نومبر سے زیادہ عرصہ قیام نہ کر سکا اور تین (۵۳) برس کی عمر میں جہنم پہنچ گیا۔

ان فلکان لکھتے ہیں کہ حجاج کو "مرض اکلہ" لاحق ہو گیا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج سے کہا کہ وہ گوشت کے ٹکڑے کو نکل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نکالا کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا گیا تو اس ٹکڑے پر بہت سے کیڑے چپے ہوئے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا اس کے اطراف میں دن رات کوکلوں کی انگلیٹھیاں جلائی جاتی تھیں لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا: "میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا لیکن تو باز نہ آتا تھا آج تو اسی کا خمیازہ بھگتا رہا ہے۔"

حجاج نے کہا: "میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، میری اس سے بس اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔" (روضات الجنات صفحہ ۱۳۳)

قاضی نور اللہ شوستری مجالس المؤمنین میں لکھتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا، وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا: ”میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے اور بالخصوص اولادِ حشم پر میں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔“

خوشامدی وزیر کہنے لگا: ”امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے دلیل و برہان کے تحت کیا ہے اور اسے کسی طرح سے بھی ظلم قرار نہیں دیا جاسکتا۔“

حجاج نے کہا: ”اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دے دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو میں خولی جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت آچکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔“

ایک بڑھیا کا دندان شکن جواب

سخت سردی کے موسم میں عمرو بن لیث بادشاہ اپنے لشکر سمیت نیشاپور میں وارد ہوا۔ فوج کے پاس رہائش کے لئے مکان نہ تھے۔ سخت سردی تھی اور برف باری شروع ہو چکی تھی تو عمرو بن لیث نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے رہائشی مکانات میں گھس جائے۔ بادشاہ کا حکم سن کر فوجیوں نے لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا اور بزور شمشیر ان کے گھروں میں رہائش اختیار کر لی۔

ایک بوڑھی عورت کے پانچ مکان تھے۔ فوجیوں نے اس کے تمام مکانات پر قبضہ کر لیا۔ بڑھیا ایک فوجی سردار کے پاس گئی اور اس سے فوجیوں کے ناجائز قبضہ کی شکایت کی۔

فوجی سردار نے اسے مشورہ دیا کہ کل میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تم کل کسی وقت بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اپنا مسئلہ اس کے سامنے پیش کرنا۔

دوسرے دن بڑھیا عمرو بن لیث کے دربار میں پہنچ گئی اور اس سے کہا: ”بادشاہ! تیری فوج نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے پاس پانچ مکانات تھے اور میری پانچ بیٹیاں ہیں جو سب کی سب بیسی ہوئی ہیں، ان مکانات میں میری بیٹیاں رہائش پذیر تھیں، مگر تیری فوج نے میرے مکانات پر قبضہ کر لیا ہے اور میری تمام بیٹیوں کو ان کے شوہروں سمیت ایک چھوٹے سے مکان میں دھکیل دیا ہے، میں آپ سے عدل و انصاف کی توقع لے کر آئی ہوں آپ اپنے فوجیوں کو حکم دیں کہ وہ میرے مکانات خالی کر دیں۔“

عمرو بن لیث نے کہا: ”بڑھیا سخت سردی ہے میری فوج کہاں جائے؟ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، لوگ سچ کہتے ہیں کہ عورتیں بے عقل ہوتی ہیں۔“

بڑھیا بے چاری واپس ہونے لگی تو کسی نے عمرو بن لیث سے کہا: ”بڑھیا بڑی عقل مند اور پرہیزگار ہے، اس پر آپ رحم کریں۔“

عمرو بن لیث نے آواز دے کر بڑھیا کو بلایا اور کہا: ”کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟“

بڑھیا نے کہا: ”جی ہاں۔“

عمرو بن لیث نے کہا: ”پھر تو تو نے قرآن مجید میں یہ آیت بھی یقین پڑھی ہوگی ”ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذالك يفعلون“ بادشاہ جب کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت اور شریف لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور وہ ایسا ہی کیا

کرتے ہیں۔“

بڑھیا نے کہا: ”بادشاہ میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے لیکن مجھے یہ تعجب ہے کہ تو نے اسی سورہ نمل کی اس آیت کو کیوں نہیں پڑھا: ”فَلَنَلَّكُم بِيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لاية لقوم يعلمون“ ان کے گھر ویران پڑے ہیں کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ بے شک اس میں علم رکھنے والوں کے لئے نشانی ہے۔“

یہ آیت سن کر عمرو بن لیث کے بدن پر کچھ طاری ہو گئی اور کہا: ”بڑھیا تو اپنے مکانات واپس لے لے۔ آج کے بعد میری فوج لوگوں کے گھروں میں نہیں رہے گی۔“

پھر اس نے اعلان کرایا کہ تین گھنٹے کی بعد اگر کوئی فوجی کسی کے گھر میں نظر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور شادیاں نامی ایک جگہ پر اس نے اپنی فوج کے خیمے لگوائے۔ اور آج وہاں ایک باغ ہے۔ (تاریخ خمیرہ صفحہ ۱۹)

مظلومیت سادات

حضرت زید شہید فرزند امام زین العابدین کے پوتے احمد بن عیسیٰ بن زید کہتے ہیں کہ جب ہارون الرشید نے ہماری تلاش شروع کی تو ہم تین افراد یعنی میں اور قاسم بن احمد بن عبد اللہ بن امام حسن اور عبد اللہ بن موسیٰ بن عبد اللہ بن امام حسن نے آپس میں بیٹھ کر طے کیا کہ ہم اپنے آپ کو متفرق شہروں میں چھپالیں اور فرضی ناموں سے زندگی بسر کریں۔

چنانچہ میں ”رے“ چلا گیا اور عبد اللہ شام اور قاسم یمن چلے گئے۔ ہارون

الرشید کی موت کے بعد ہم تینوں ایام حج میں مکہ میں ایک دوسرے سے ملے اور ہر ایک نے اپنا اپنا دروہل سنایا۔

قاسم نے بیان کیا: ”جب میں یمن کی طرف روانہ ہوا تو میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی جو کہ حاملہ تھی، ایک بے آب و گیاہ میدان سے ہم گزر رہے تھے کہ میری بیوی کو دردِ زہ شروع ہوا، صحرا میں کوئی باپردہ جگہ موجود نہ تھی، چنانچہ میں نے ایک گڑھا کھودا جہاں میری بیوی نے ایک چھ کو جنم دیا۔“

پھر میری بیوی پر پیاس کا غلبہ ہوا تو میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گیا لیکن مجھے کہیں سے بھی پانی دستیاب نہ ہوا، میں خالی ہاتھ لوٹا تو میری بیوی کی نظر ختم ہو چکی تھی اور وہ ہارنا ہو گئی تھی، میں دوبارہ پانی کی تلاش کے لئے گیا لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کہیں سے پانی نہ مل سکا، جب میں واپس آیا تو میری بیوی مر چکی تھی اور اس کے پہلو میں معصوم چہرہ رو رہا تھا۔ میں نے بیوی کو دفن کیا اور بارگاہِ احدیت میں عرض کی پروردگار! بے ماں کا چہ کیسے زندہ رہے گا جب کہ میں خود سر چھپانے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں؟

تھوڑی دیر بعد معصوم چہ نے میرے ہاتھوں پہ دم دے دیا، میں نے معصوم چہ کو اس کی ماں کے پہلو میں دفن کر دیا۔“

عبد اللہ بن موسیٰ نے بتایا: ”میں کسانوں اور مزدوروں کا لباس پہن کر شام کے ایک دیہات میں گیا، وہاں سپاہیوں نے مجھے دیکھا تو پہلے تو انہوں نے میری شکل و صورت دیکھ کر میرا مذاق اڑایا، پھر انہوں نے میری پشت پر بھاری سامان رکھا، میں سامان کو لے کر چلتا رہا اور جب تھک جاتا تو سامان کو زمین پر رکھ دیتا، سپاہی مجھے تازیانے مارتے اور کہتے اللہ اس گروہ پر لعنت کرے جس کی

طرف تو منسوب ہے۔“

احمد بن عیسیٰ نے اپنے مصائب بیان کرتے ہوئے کہا: ”مجھ پر اس دوران سب سے بڑی مصیبت یہ وارد ہوئی کہ میں نے ”رے“ کے مضافات میں در زمین نامی مقام پر فرضی نام ابو حفص جصاص کے نام سے رہائش اختیار کی، میرا بیٹا محمد بھی میرے ساتھ تھا۔

ایک نالائق اور بد جنس خاندان کی ایک عورت سے میری شادی ہوئی اور میرے چنے عمر کی شادی عبدالقیس کے غلاموں کی ایک لڑکی سے ہوئی، میرا بیٹا بھی میری طرح سے فرضی نام سے زندگی بسر کرتا رہا۔

اللہ نے مجھے اس عورت سے ایک بیٹی عطا کی، جب میری بیٹی سن زشد پر پہنچی تو اسی گروہ میں سے ایک معزز شخص نے مجھ سے خواستگاری کی اور میری بیوی کے بھائیوں نے بھی اس رشتہ کے لئے اصرار کیا، اس مسئلہ کے لئے میں اتنا مجبور ہوا کہ ایک رات میں نے بیٹی کی موت کی دعا مانگی، صبح ہوئی تو میری بیٹی کی وفات ہو گئی، آج تک میرے دل میں اس بات کا قلق ہے کہ میں اپنی نور چشم کو اپنی ذات سے بھی آگاہ نہ کر سکا۔

میری بیٹی وفات پا گئی تو میں اپنے بیٹے کو بتانے کے لئے گیا کہ اللہ نے میری دعا سن لی اور ان منحوس لوگوں کی رشتہ داری سے خدانے ہمیں چالیا۔

میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام میں نے علی رکھا ہے، اس وقت میرا بیٹا در زمین میں ہے اور مجھے اس کے حالات کی کچھ خبر نہیں ہے۔“ (مقل خوارزمی جلد ۲ صفحہ ۱۰۷)

مظلومین کی داورسی نہ کرنے کا انجام

خوارزم شاہ کی چنگیز خان سے جنگ ہوئی۔ منگولوں کو فتح ہوئی اور خوارزم شاہ کو قتل فاش اٹھانا پڑی۔ منگول لشکر کے خوف سے اس نے فرار کا منصوبہ بنایا۔ پہلے پہل تو اس نے ہندوستان جانے کا مقصد کیا لیکن بوجہ ہندوستان جانے کی بجائے نیشاپور چلا گیا اور نیشاپور پہنچ کر اس کی عیاشیاں دوبارہ شروع ہو گئیں اور مظلوم عوام پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا اور مخلوق خدا پر اس نے عرصہ حیات تک کر دیا۔ تین سال تک وہ نیشاپور میں رہا۔

ایک دن مظلومین اپنا ایک وفد بنا کر اس کے وزیر کے پاس گئے اور اپنے تملف شدہ حقوق کا مطالبہ کیا اور کہا ”خوارزم شاہ سے اس مسئلہ پر گفتگو کرو اور ہماری لوٹی ہوئی دولت اس سے واپس دلاؤ۔“

وزیر نے کہا: ”بادشاہ نے میرے ذمہ یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ میں حسین و جمیل عورتیں تلاش کر کے اس کے حرم سرا بھجوں اور طہلہ نوازوں کو اس کی خدمت میں پیش کروں لہذا میں تمہارے حقوق پر بات کرنے سے معذور ہوں۔“

اسی دوران خوارزم شاہ کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ چنگیز کا لشکر اس کے تعاقب میں روانہ ہو چکا ہے اور مقدمہ الجیش کے تیس ہزار وحشی سپاہی دریائے جیحون پار کر چکے ہیں اور ان کی پیچھے چنگیز بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔

یہ خبر سن کر اس کی تو گویا جان ہی نکل گئی اس نے نیشاپور کو خیر باد کہا اور عراق کی طرف رخ کیا۔

تاریخ جہاں سنا کے مصنف خواجہ عطاء الملک جوینی لکھتے ہیں کہ جب خوارزم شاہ نے نیشاپور سے فرار کیا تو میرے والد بھی اس وقت اس کے ہمراہ

تھے۔ سلطان اپنا لشکر لے کر ایک نیلے پرچہ ہالور میرے والد کو اپنے قریب بلایا۔ جب وہ قریب گئے تو اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جگر سوز آہ بھری اور کہا: ”جوینی! تم نے دیکھا کہ فلک بد کردار نے ہم سے کیا سلوک روا رکھا اور بد بختی نے ہمیں کس طرح سے اپنی پیٹ میں لے لیا۔“ پھر آپیں بھر بھر کر رونے لگا اور زندہ کی کج رفتاری کے متعلق شعر پڑھتا رہا۔

سلطان ”رے“ گیا پھر وہاں سے طبرستان اور گرگان گیا اور جب قلعہ اقلال پہنچا تو اس نے اپنے خاندان کو قلعہ اقلال میں ٹھہرایا اور وہاں بہت سا خزانہ بھی دفن کیا۔ قلعہ اقلال ایک ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ وہاں اپنے خاندان کو ٹھہرا کر خود جزیرہ ”آبسکون“ میں چھپ گیا۔

منگول لشکر مسلسل اس کا تعاقب کرتا رہا۔ جب انہیں علم ہوا کہ سلطان کا خزانہ اور اس کا خاندان قلعہ اقلال میں روپوش ہے تو انہوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔

مذکورہ قلعہ ہر لحاظ سے مستحکم اور ناقابل تسخیر تھا مگر سلطان کے خاندان کی بد بختی سے قلعہ کے چشموں کا پانی ختم ہو گیا تو قلعہ والوں نے منگول لشکر سے صلح کر لی اور ان کے لئے اپنے قلعہ کے دروازے کھول دیئے۔

منگول لشکر نے سلطان کے خاندان کو قید کر لیا اور اس کے مدفن خزانہ پر قبضہ کر لیا۔ جب خوارزم شاہ کو قلعہ اقلال کے سقوط کی خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔

گردش افلاک کو ملاحظہ فرمائیں کہ جو شخص پہلے شکار پر جاتا تھا تو اس کے ساتھ ہزاروں افراد ہوتے تھے اور جب جزیرہ ”آبسکون“ میں اس نے خودکشی کی

تو کسی کی آنکھ میں اس کے لئے ایک آنسو تک نہ تھا۔ جو اطلس و کنوایب کے سحر پر سونے کا عادی تھا اسے کفن تک نہ تھا۔ اسے اسی لباس میں دفن کیا گیا جو اس نے پہنا ہوا تھا۔

منگول سردار اس کے خاندان کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس لے گئے تو اس نے حکم دیا کہ ان میں جتنے مرد ہیں سب کو تیغ کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو کنیر بنایا جائے۔ منگول لشکر کے انہروں میں اس خاندان کی عورتوں کو تقسیم کر دیا گیا اس وقت خوارزم شاہ کی ماں بربند گھوڑے پر سوار اپنے خاندان کی رسوائی پر ماتم کر رہی تھی۔ (تاریخ طبری صفحہ ۵۰)

دو بھائیوں کے کردار کا فرق

سلطان محمود غزنوی نے خطباء کو خط لکھا کہ وہ خطبہ جمعہ و عیدین میں اس کے نام کے بعد اس کے بیٹوں محمد اور مسعود کا نام لیا کریں۔

امیر حسن میکان نے جو کہ سلطان کا قریبی دوست تھا ایک دن سلطان سے پوچھا: ”دنیا جانتی ہے کہ آپ کا بیٹا مسعود حکومت کی زیادہ لیاقت رکھتا ہے اور وہی آپ کا صحیح جانشین ثابت ہو سکتا ہے اس کے باوجود آپ نے خطبہ میں محمد کو مسعود پر مقدم کیوں رکھا؟“

سلطان نے کہا: ”آپ نے درست کہا ہے، مسعود حکومت کی لیاقت و صلاحیت زیادہ رکھتا ہے لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر مسعود کو حکومت مل گئی تو وہ اپنے بھائی محمد کو ایک دن کے لئے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یا تو اسے قتل کر دے گا یا اس کا کوئی نہ کوئی عضو ناقص کر دے گا۔ اسی خطرہ کے پیش نظر میں

وزارت کے بعد کیا گل کھلائے؟

احمد بن محمد، معتمد کا وزیر تھا۔ ایک گورنر نے اسے خط بھیجا تو وزیر وہ خط اپنے سلطان کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ خط میں لفظ ”کلاء“ لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ کو اس لفظ کا معنی نہیں آتا تھا۔

چنانچہ اس نے وزیر سے اس لفظ کا معنی دریافت کیا تو وزیر نے کہا: ”جی بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس لفظ کا معنی معلوم نہیں ہے اور ہماری عجیب حالت ہے خلیفہ ان پڑھ اور وزیر جاہل ہے۔“

خلیفہ نے کہا: ”اس وقت ہمارا کوئی کاتب موجود ہو تو اسے بلایا جائے۔“
خلیفہ کو بتایا گیا کہ اس وقت محمد بن عبد الملک موجود ہے۔

خلیفہ نے کہا: ”اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ خلیفہ نے محمد بن عبد الملک سے لفظ ”کلاء“ کے معنی دریافت کئے تو اس نے کہا: ”الکلاء العشب علی الاطلاق فان كان رطباً فحسوا الخلی فاذا ایس فہوا الحشیش“ لفظ ”کلاء“ کے معنی مطلقاً گھاس کے ہیں اور اگر وہ گھاس تر ہو تو اسے ”خلی“ کہتے ہیں اور اگر خشک ہو جائے تو اسے ”حشیش“ کہتے ہیں۔“

پھر اس نے نباتات کی تقسیم ہدی بیان کرنی شروع کی تو خلیفہ اس کی لیاقت و قابلیت سے بے انتہا متاثر ہوا اور اسے وزارت کا قلمدان سونپ دیا۔

محمد بن عبد الملک نے وزارت کے دوران بڑی قوت حاصل کرنی اور ظلم و جور سے مال اکٹھا کرنے لگا اور وہ ایک طویل عرصہ تک یعنی معتمد کے دور سے واقع کے دور تک مدبر اقتدار رہا۔

ابن وہب کہتا ہے کہ میں اور ابن خضیب اور حکومت کے دوسرے بہت

نے خطبہ میں محمد کو مسعود پر مقدم رکھا ہے تاکہ وہ اس وجہ سے اپنے بھائی کا کچھ لحاظ رکھے۔“

سلطان محمود کے بعد وہی کچھ ہوا جس کا اسے اندیشہ تھا۔ باپ کے بعد مسعود حکمران بنا تو اس نے اپنے بھائی محمد کی آنکھوں میں سلائی پھروا کر نابینا کر دیا اور ایک قلعہ میں اسے قید کر دیا۔ محمد نے اپنے بھائی مسعود سے درخواست کی کہ اسے خرچ کے لئے ایک سو دینار دے تو اس نے ایک دینار دینے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد حالات نے کروٹ بدلی۔ بغداد کا خلیفہ قتل ہوا اور پروانہ حکومت سلجوقیوں کو ملا تو مسعود نے خراسان چھوڑ دیا اور غزنی واپس آیا۔ مسعود کے غلام اور فوجی اس سے تنگ آگئے اور انہوں نے ایک شورش برپا کر کے اس کے بھائی محمد کو زندان سے باہر نکالا اور اسے حکومت کی پیش کش کی۔

محمد نے پہلے تو معذرت کی لیکن فوجیوں نے کہا: ”اگر اس نے منصب حکومت قبول نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔“

مجبور ہو کر محمد کو حکومت قبول کرنا پڑی۔ سپاہیوں نے مسعود کو گرفتار کر کے محمد کے سامنے پیش کیا تو محمد نے بھائی سے کہا: ”تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس قلعہ کو اپنے لئے پسند کرو میں تمہیں وہ قلعہ دینے پر آمادہ ہوں۔“

مسعود نے ایک قلعہ کا نام لیا تو محمد نے کہا: ”میں نے تمہیں اس قلعہ کا حاکم بنایا ہے۔“

پھر مسعود نے اس سے جیب خرچی کے لئے کچھ رقم طلب کی تو محمد نے پانچ سو دینار عطا کئے۔“

سے معزول حکام محمد بن عبدالملک زیات کی قید میں تھے اور اس نے ہم سے رہائی کے لئے بہت بڑی رقم طلب کی تھی جس کی ادائیگی ہمارے بس سے باہر تھی۔ ہم اپنی رہائی سے مایوس ہو گئے تھے۔

اسی زمانہ میں واثق باللہ ہمارا ہوا احمد بن ابی دلوذ قاضی اس کی مزاج پر سی کے لئے گیا تو خلیفہ واثق باللہ نے کہا: ”احمد! میں تو اپنی ہاتھوں سے دنیا و آخرت دونوں دے چکا ہوں۔“

قاضی نے کہا: ”وہ کیسے؟“

خلیفہ نے کہا: ”یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اسی لئے میرے ہاتھ سے دنیا نکل چکی ہے اور زندگی میں اتنے غلط کام میں نے کئے ہیں جن کی وجہ سے آخرت بھی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اب اگر میری اخروی نجات کا تم سے کوئی سامان ممکن ہے تو ضرور کرو۔“

قاضی نے کہا: ”آپ کے وزیر محمد بن عبدالملک نے بہت سے حکام کو معزول کر کے زندان میں ڈالا ہوا ہے اور ان سے رہائی کے عوض ہماری رقوم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم موجود نہیں ہے۔ قیدیوں کے خاندان کے ہزاروں افراد آپ اور آپ کے وزیر کو بددعائیں دیتے ہیں۔ آپ اپنے وزیر کو حکم دیں کہ وہ ان قیدیوں کو آزاد کر دے۔ جب وہ آزاد ہوں گے تو ان کے لواحقین کی بددعا آپ کے لئے دعا میں بدل جائے گی اور ممکن ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا کر دے۔“

خلیفہ نے قاضی کو حکم دیا۔ ”میری طرف سے تم وزیر کو لکھو کہ وہ ان قیدیوں کو فوراً رہا کر دے۔“

قاضی نے کہا: ”وزیر میرا خط پہچانتا ہے وہ میرے خط کو دیکھ کر قیدیوں کو آزاد نہیں کرے گا۔ آپ اپنے ہاتھ سے وزیر کو لکھیں۔“

واثق نے وزیر کے نام قیدیوں کی رہائی کا حکم لکھا اور ایک درباری کو بلا کر تاکید کی کہ تم وزیر کے پاس میرا یہ حکم لے کر جاؤ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو تو اسے کوکھوڑے سے اتر کر قیدیوں کی رہائی کا فرمان جاری کرے۔

درباری خلیفہ کا حکم لے کر گیا تو اس وقت وزیر دارالامارہ آ رہا تھا۔ اس نے اسے راستہ میں روک کر کہا: ”خلیفہ کا حکم ہے گھوڑے سے اتر کر اس کے فرمان کی پہلے تعمیل کرو اور اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرو۔“

وزیر نے خلیفہ کے خط کو پڑھا تو کہا کہ: ”میں خلیفہ سے اس مسئلہ پر گفتگو کروں گا۔“

درباری نے کہا: ”یہ اب ناممکن ہے۔ تجھے پہلے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی ورنہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لئے تیار کر لو۔“

وزیر نے مجبور ہو کر قیدیوں کو آزاد کیا۔ (از تاریخ حمیرہ ص ۳۵۸)

اس وزیر نے ایک عقوبت خانہ میں لوہے کا ایک تور بنایا تھا جس میں دائیں بائیں لوہے کی سلاخیں نصب تھیں جب وہ کسی مخالف کو قتل کرنا چاہتا تھا تو حکم دیتا تھا کہ تور کو زیتون کی لکڑیوں سے گرم کیا جائے اور جب تور اچھی طرح سے سرخ ہو جاتا تو وہ اپنے مخالفین کو اس دیکھتے ہوئے تور میں ڈال دیتا تھا جہاں آگ کے انگارے اور دہکتی ہوئی لوہے کی سلاخیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ اس نے سینکڑوں بے گناہوں کو اس تور کے ذریعے سے قتل کیا تھا۔

واثق کے بعد متوکل برسر اقتدار آیا اور کسی وجہ سے وہ وزیر پر ناراض

ہو گیا۔ اسے منصب وزارت سے برطرف کر دیا اور اس کی تمام جائیداد اپنے قبضے میں لے لی اور حکم دیا کہ اسے اس کے بنائے ہوئے ثور میں قید کر دیا جائے۔
محمد بن عبد الملک چالیس دن تک اپنے ہی بنائے ہوئے ثور میں قید رہا۔ مرنے سے ایک روز قبل اس نے متوکل کو خط لکھا جس میں اس نے یہ شعر لکھے تھے:

ہی السبیل فمن یوم الی یوم
کانہ ماتریک العین فی النوم
لا تجز عن رویدا انہا دول
دنیا تنقل من قوم الی قوم

حکومت و اقتدار تو ایک چلتا ہوا راستہ ہے کبھی کوئی چل رہا ہے اور کبھی کوئی۔ حکومت و اقتدار پر مغرور نہ ہونا چاہئے کیونکہ حکومت بھی ایک خواب کی طرح ہے۔ انقلاب زمانہ سے گھبرانا نہیں چاہئے کیونکہ کبھی کسی کے پاس ہے اور کبھی کسی کے پاس ہے۔

جس دن متوکل کو اس کا خط ملا۔ اس دن متوکل کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اس کے خط کو پڑھتا۔ دوسرے دن جب متوکل نے اس کے خط کو پڑھا تو اس کی رہائی کا حکم جاری کر دیا لیکن جب ثور کھولا گیا تو وہ مر چکا تھا۔

درومندانہ اپیل

ظلم کی مذمت سے قرآن و حدیث اور تاریخ کے لوراق بھرے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے لوراق میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم مذمت ظلم کے لئے

بطور اختصار قرآن مجید کی چند آیات اپنے قارئین کی نذر کرتے ہیں:

- ۱۔ "واللہ لا یحب الظالمین" اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
- ۲۔ "ان اللہ لایہدی القوم الظالمین." "یضک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔"
- ۳۔ "انہ لا یفلح الظالمون." "ظالم کامیاب نہ ہوں گے۔"
- ۴۔ "قل هل یهلك الا القوم الظالمون." "کہہ دو کہ ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔"
- ۵۔ "وکذلك نجزی الظالمین." "اور ہم ظالموں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔"
- ۶۔ "فانظر کیف کان عاقبة الظالمین." "دیکھو تو سہی کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔"
- ۷۔ "ان الظالمین لہم عذاب الیم." "بے شک ظالموں کیلئے دردناک عذاب ہے۔"
- ۸۔ "ومن یظلم منکم نذقہ عذابا الیما." "اور تم میں سے جو ظلم کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔"
- ۹۔ "فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم." "دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے ظلم کرنے والوں کے لئے افسوس ہے۔"
- ۱۰۔ "لا تحسین اللہ غافلا عما یعمل الظالمون." "جو کچھ ظالم کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھنا۔"
- ۱۱۔ "انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار." "انہیں اللہ اس دن کے

چند روایات

عن ابی جعفر علیہ السلام قال لما حضر علی بن الحسین علیہ السلام الوفاة ضمنی الی صدره ثم قال: یا بنی اوصیک بما اوصانی به ابی علیہ السلام حین حضرته الوفاة و بما ذکر ان اباه اوصاه به قال: یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ.

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا ”بیٹا! میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے والد نے اپنی شہادت سے پہلے مجھے کی تھی اور میرے والد نے یہ بتایا تھا کہ ان کے والد امیر المؤمنین علیہ السلام نے انہیں یہ وصیت کی تھی اور وہ وصیت یہ ہے کہ کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔“

عن الصادق علیہ السلام قال. ثلاث دعوات لا یحجب عن اللہ تعالیٰ دعاء الوالد لولده اذا بره و دعوتہ علیہ اذا عقه و دعاء المظلوم علی ظالمہ و دعائہ لمن انتصر له منه و رجل مؤمن دعا لآخر له مؤمن واساه فیہ و دعائہ علیہ اذا لم یواسه مع القدرة علیہ واضطر اخیه الیہ.

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت کے لئے اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ حاصل نہیں ہوتی:

- ۱۔ باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا جب بیٹا اس سے بھلائی کرے اور باپ کی بیٹے پر بددعا جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرے۔
- ۲۔ مظلوم کی ظالم کے خلاف بددعا اور ایسے شخص کے حق میں دعا، جو ظالم

لئے صلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پٹی ہوں گی۔

کتاب احادیث، ظلم کی مذمت سے بھری ہوئی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اشتد غضبی علی من ظلم من لا یجد ناصرا غیری.“ میرا غیظ و غضب اس پر سخت ہوگا جو اس پر ظلم کرے جس کا میرے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔

مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے: ”بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد.“ آخرت کے لئے بدترین توشہ بدوں پر ظلم کرنا ہے۔

آپ کا ایک اور فرمان ہے: ”من خاف القصاص کف عن ظلم الناس.“ جسے قصاص کا خوف ہوگا وہ لوگوں پر ظلم کرنے سے پرہیز کرے گا۔

رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ”دعوة المظلوم مستجابة ولو کان من فاجر.“ مظلوم کی بددعا قبول ہے اگرچہ مظلوم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں لفظ کا فر بھی وارد ہوا ہے۔

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”قال اللہ تعالیٰ وعزتی و جلالی لا اجیب دعوة المظلوم دعائی فی مظلمة ظلمها ولا حد عنده مثل تلك المظلمة.“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں کسی ایسے مظلوم کی دعا قبول نہیں کروں گا جو اسی مقدار میں کسی پر ظلم کر چکا ہو۔

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے: ”ما یاخذ المظلوم من دین الظالم اکثر مما یاخذ الظالم من دین المظلوم.“ ظالم کسی مظلوم کی دنیا کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا مظلوم ظالم کے دین کا نقصان کرتا ہے۔

خدا لے چہرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

سے اس کا حق وصول کر کے اس کے حوالے کرے۔

۳۔ ایک مؤمن کی دوسرے مؤمن کے لئے دعا جو ہماری وجہ سے اس کی مدد کرے اور اس کے خلاف بددعا جو قدرت رکھنے کے باوجود مؤمن کی مدد نہ کرے اور جبکہ مؤمن کو بھی اس کی مدد کی اشد ضرورت ہو۔“

عن یونس بن ظبیان قال: قال ابو عبد اللہ یا یونس من حبس حق المؤمن اقامه اللہ یوم القیامۃ خمس مائۃ عام علی رجليه حتی یسئل من عرفه او دية وینادی مناد من عند اللہ هذا الظالم الذی حبس عن اللہ حقه قال فیویح اربعین یومائم یؤمر به الی النار.

وعنه ایضا قال: ایما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو یحتاج الیه لم یذق واللہ من طعام الجنة ولا یشرّب من الریح المختوم.

”حد الاورج ۱۵ ص ۲۰۳ نقل از عاصم“

یونس بن ظبیان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”یونس! جو مؤمن کے حق کو روک لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پانچ سو سال پاؤں پر کھڑا رکھے گا یہاں تک کہ اس کے پاؤں سے پسینہ کی سریریں جاری ہو جائیں گی اور اللہ کی طرف سے ندا کرنے والا یہ ندا دے گا کہ یہ وہ ظالم ہے جس نے اللہ کا حق روک لیا تھا۔ پھر اسے چالیس دن تک زجر و توبخ کی جاتی رہے گی۔ پھر اسے دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔“

اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”وہ شخص جو مؤمن کا مال روک لے اور مؤمن کو اس کی ضرورت ہو تو خدا کی قسم وہ جنت کے طعام کا ذائقہ نہیں چکھ سکے گا اور جنت کی سرسبز شہر آشوب طور کو نہیں پی سکے گا۔“

باب ہشتم

عدل و انصاف

عمر بن عبد العزیز کے عدل کا نتیجہ

ایک مرتبہ منصور دوانیقی نے عمرو بن عبید سے نصیحت کرنے کی درخواست کی اس نے کہا: ”میں تمہیں سنی سنائی بات بتاؤں یا اپنی چشم دید بات بتاؤں؟“

منصور دوانیقی نے کہا: ”بھلا سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟“

عمرو بن عبید نے کہا: ”عمر بن عبد العزیز بنی امیہ میں سے انصاف پرور جاکم تھا اور اسی کے زمانہ میں لوگ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے ورثاء میں گیارہ افراد تھے اور اس کی کل میراث سات سو مثقال طلا تھی۔ اس کے ورثاء میں سے ہر ایک وارث کو ایک سو پچاس قیراط چاندی ملی اور جب ہشام بن عبد الملک کی وفات ہوئی تو اتفاق سے اس کے ورثاء کی تعداد بھی گیارہ ہی تھی۔ ان میں سے ہر وارث کو ایک ملین یعنی دس لاکھ مثقال سونا حصہ میں آیا۔“

چند دنوں بعد میں نے عمر بن عبد العزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا جس نے

ایک سو گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد لورج کے لئے لوگوں کو دیئے اور میں نے ہشام کے ایک بیٹے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔“ (زینۃ المجالس مجددی)

مظلوم کی صدا سے سلطان بے چین ہو گیا

سلطان محمود غزنوی ایک رات سونے کے لئے اپنے بستر پر گیا تو کوشش کے باوجود اسے بستر پر نیند نہ آئی۔ اسے خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم اپنی داورسی کے لئے آیا ہوا ہے اس وجہ سے اسے نیند نہیں آرہی۔

اس نے غلام کو بلا کر کہا: ”باہر جا کر اچھی طرح سے دیکھو، اگر اس وقت کوئی مظلوم شکایت لے کے آیا ہوا ہو تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔“

غلام دیکھ کر واپس آیا اور کہا: ”مجھے اس وقت کوئی مظلوم نظر نہیں آیا۔“ سلطان نے دوبارہ سونے کا ارادہ کیا تو اس بار بھی اسے نیند نہ آئی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ غلام نے مظلوم کی پوری طرح سے جستجو ہی نہیں کی۔ خود بستر سے اٹھ کر باہر آیا اس کے حرم سرا کے قریب ایک مسجد تھی اور مسجد سے ایک شخص کی آہ و فریاد کی آواز آرہی تھی۔

سلطان مسجد میں آیا تو دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے: ”اے میرے وہ خدا! جسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگھ اس پر مسلط ہوتی ہے۔ محمود نے مظلوموں کے لئے اپنے دروازے بند کر دیئے ہیں اور اپنے ندریوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کر رہا ہے۔“

یہ الفاظ سن کر محمود نے کہا: ”میں آگیا ہوں، تم اپنا مسئلہ بتاؤ۔“

اس شخص نے کہا: ”بادشاہ تیرے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام

مجھے معلوم نہیں ہے وہ میری عزت کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ میرے گھر آکر میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔“

سلطان نے کہا: ”اس وقت وہ کہاں ہے؟“

اس شخص نے کہا: ”میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ جاچکا ہوگا۔“

سلطان نے کہا: ”جب وہ دوبارہ تمہارے گھر میں داخل ہو تو مجھے فوراً آگاہ کرنا۔“

پھر سلطان نے اپنے دربانوں کو بلا کر کہا کہ تم اس شخص کو اچھی طرح سے دیکھ لو یہ جس وقت بھی مجھ سے ملنا چاہے تم اسے نہ روکتا۔

اگلی رات وہ فوجی افسر اس غریب کی عزت و ناموس برباد کرنے کے لئے اس کے گھر آیا۔ مظلوم اسے دیکھ کر فوراً سلطان کے پاس آیا اور اسے اس ظالم کے آنے کی اطلاع دی۔

سلطان نے فوراً اپنی تلوار اٹھائی اور اس شخص کے گھر آیا اور آکر دیکھا کہ وہ شخص اس کی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ سلطان نے اس شخص سے کہا کہ تم جلدی سے چراغ بھادو۔ اس شخص نے چراغ بھکھیا تو سلطان نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ اب دوبارہ چراغ جلاؤ۔ اس شخص نے چراغ جلایا تو سلطان نے غور سے مقتول کے چہرہ کو دیکھا اور فوراً سجدہ شکر جلایا۔ پھر صاحب خانہ سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو کچھ بھی کھانے کے لئے ہو میرے پاس لاؤ میں سخت بھوکا ہوں۔

اس شخص نے عرض کی: ”سلطان ذی جاہ! آپ ہم غریبوں کے گھر کا کھانا کیسے کھائیں گے؟“

سلطان نے کہا: ”سجدہ خدا جو کچھ بھی تمہارے گھر میں ہو کھانے کے لئے لاؤ۔ وہ شخص خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لایا۔ پھر سلطان نے روٹی کھائی۔“

اس شخص نے سلطان سے پوچھا: ”مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے چراغ بھجانے کا حکم کیوں دیا اور پھر مقتول کو دیکھ کر آپ نے سجدہ شکر کیوں کیا اور ایک غریب کے گھر سے کھانا کیوں کھایا؟“

سلطان محمود نے کہا: ”جب میں نے تیری فریاد سنی تھی تو میں یہ سمجھا تھا کہ میرے مصاحبین میں سے کسی کو ایسی جرأت نہیں ہو سکتی، ہونہ ہو یہ میرے کسی بچے کا کارنامہ ہے۔ اسی لئے میں نے تجھے چراغ بھجانے کا حکم دیا تھا تاکہ اگر مجرم میرا بیٹا ہو تو شفقت پوری عدالت میں حاصل نہ ہو جائے اور جب تم نے دوبارہ چراغ جلایا تو میں نے دیکھا کہ مقتول میرا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک فوجی افسر تھا۔ اسی لئے میں نے سجدہ شکر کیا کہ میرے کسی بچے سے یہ جرم صادر نہیں ہوا اور کل رات سے میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب تک میں ظالم کو سزا نہ دوں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اسی لئے میں کل سے بھوکا تھا اور تم سے کھانا لانے کی درخواست کی تھی۔“

انصاف کی وجہ سے دشمن پر کامیابی ہوئی

امیر احمد سامانی، عمرو لیث سے جنگ کرنے کے لئے بارہ ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب شہر بخارا سے اس کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ بخارا کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور ان کے خوشے دیواروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔

امیر احمد سامانی نے دل میں سوچا کہ میری ساری فوج میری انصاف پسندی اور عدل سے واقف ہے اگر انہوں نے میرے عدل کو مد نظر رکھ کر پھل نہ توڑے تو میدان جنگ میں میری کامیابی یقینی ہوگی اور اگر میرے فوجیوں نے پھل توڑے تو میری کامیابی مشکل ہو جائے گی اور پھر میں یہاں سے ہی واپس وطن روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک شخص کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ دیکھے کہ اس کے فوجی باغات کے پھل توڑتے ہیں یا نہیں۔

کچھ دیر بعد نگراں نے اسے آکر اطلاع دی کہ آپ کے کسی بھی فوجی نے پھل نہیں توڑے۔ یہ سن کر امیر سامانی نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ اب جنگ میں میری جیت یقینی ہے کیونکہ عدل کامیابی کی کلید ہے اور آخر کار وہ جنگ میں کامیاب رہا۔

اس واقعہ کی تفصیل ہم اپنی اس کتاب کے باب تکبر و خود پسندی میں لکھ چکے ہیں۔

سلطان ملک شاہ اور بوڑھی عورت

ایک دن ملک شاہ شکار کے لئے روانہ ہوا اور ایک قلعہ میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے غلاموں نے ایک لاوارث گائے دیکھی تو اسے پکڑ کر ذبح کر دیا اور اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔

اتفاق سے وہ گائے ایک بوڑھی بیوہ عورت کی تھی جس کے تین بچے تھے اور ان کی گزر اوقات اسی گائے کے دودھ پر ہوتی تھی۔ بوڑھیا کو معلوم ہوا کہ آج بادشاہ کا گزر دریاے زندہ رود کے پل سے ہوگا تو بوڑھیا دریا کے کنارے آکر بیٹھ

گئی۔ کچھ دیر بعد سلطان اپنی فوج کے ہمراہ وہاں آیا۔ بڑھیا خاموشی سے اس کی فوج کو گزرتے ہوئے دیکھتی رہی اور جب سلطان کی سواری پل پر سے گزرنے لگی تو بڑھیا اس کے آگے آکر کھڑی ہو گئی اور کہا: ”الپ ارسلان کے بچے! اس پل پر حساب دو گے یا پل صراط پر؟“

سلطان ملک شاہ نے کہا: ”اے ضعیف! میں پل صراط پر حساب نہیں دے سکتا البتہ اس پل پر حساب دینے کو تیار ہوں۔ تاؤ تم پر کس نے ظلم کیا ہے تاکہ میں تمہاری داورسی کروں؟“

بڑھیا نے کہا: ”سلطان! میری ایک گائے تھی تیرے فوجی اسے ذبح کر کے کھا گئے، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اپنی فوج کی صحیح تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں۔“

سلطان نے حکم دیا کہ جن فوجیوں نے ایسا کیا ہے انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد مجرم سلطان کے سامنے پیش ہوئے۔ سلطان نے انہیں سخت ترین سزا دی اور بڑھیا کو ایک گائے کے بدلے میں ایک سو گائیں دیں اور پھر بڑھیا سے پوچھا کہ کیا اب تو الپ ارسلان کے بچنے سے راضی ہے؟

بڑھیا نے کہا: ”خدا کی قسم میں راضی ہوں۔“

ملک شاہ کے جانے کے بعد عورت نے اس کی خاک پا پر سر رکھا اور کہا: ”خدا یا! الپ ارسلان کے بیٹے نے اپنی پستی کے باوجود میرے ساتھ انصاف کیا ہے اور اس کے ساتھ سخاوت بھی کی ہے۔ خدا یا! تو کریم ہے تو اس پر فضل کر اور اسے معاف فرما دے تو یہ تیری سخاوت سے بعید نہیں ہے۔“

ملک شاہ کی وفات کے بعد ایک عابد نے اسے خوب میں دیکھا اور پوچھا

کہ: ”ملک شاہ! خدا نے تجھ سے کیا سلوک کیا؟“

ملک شاہ نے جواب دیا: ”اگر دریائے زندرود کے پل پر میں نے انصاف نہ کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔“ (تاریخ خیرہ ص ۲۵۔ زینۃ المجالس مجددی)

نو شیروان اور طاق مدائن

بیان کیا جاتا ہے کہ جب نو شیروان بادشاہ نے مشہور زمانہ محل طاق مدائن بنانے کا ارادہ کیا اور جس جگہ کو اس نے محل کے لئے منتخب کیا تھا اس کے متعلق اس نے حکم دیا کہ جن لوگوں کی زمین محل میں آتی ہو ان سے زمین خرید لی جائے۔ تمام لوگوں نے اپنی زمینیں فروخت کر دیں لیکن اس علاقے میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی وہ اپنی زمین بچنے پر رضامند نہ ہوئی اور اس نے کہا: ”میں کسی قیمت پر سلطان کی مسائگی سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔“

جب بادشاہ کو اس کے جواب سے مطلع کیا گیا تو اس نے کہا کہ بڑھیا کو مکان فروخت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ الغرض محل تیار ہو گیا لیکن اس کی ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی۔

ایک دفعہ سلطان روم کا سفیر آیا اور اس نے محل دیکھا تو بڑی تعریف کی لیکن اس نے محل کے ایک حصے میں کچی دیکھی تو پوچھا کہ: ”محل کے اس حصے میں کچی کیوں ہے؟“

اسے بتایا گیا: ”اس کے ساتھ ایک بڑھیا کا مکان ہے اس نے اپنا مکان بچنے سے انکار کر دیا تھا اسی لئے یہاں دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہے۔“

اس نے سن کر یہ کہا: ”عدل و انصاف کی یہ کچی ظلم کی استقامت سے

بڑ ہے۔“

تاریخ حمیرہ کے صفحہ ۳۲ پر مرقوم ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا طاق مدائن سے گزر ہوا تو آپ نے نوشیروان بادشاہ کو حکم خد لوندی سے زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ: ”اللہ نے تجھ سے کیا سلوک کیا؟“

نوشیروان نے کہا: ”میں کافر تھا اسی لئے جنت سے محروم ہوں لیکن اس کے ساتھ میں عادل تھا اسی لئے دوزخ کی آگ میں جانے سے بچ گیا ہوں۔“

جب بادشاہ عادل ہو تو رعایا بھی امین ہوتی ہے ﴿﴾

نوشیروان بادشاہ ایک مرتبہ لباس اور حلیہ بدل کر ایک دیہاتی کا مہمان ہوا۔ صاحب خانہ نے اسے ضیافت دی۔ نوشیروان نے دیکھا کہ اس کا انگوروں کا باغ پک کر تیار ہونے والا ہے تو اس نے میزبان سے باغ کے انگور کھانے کی فرمائش کی۔

میزبان اپنے باغ سے انگور لانے کی جائے ایک اور مقام سے انگور لے آیا اور مہمان کے سامنے انگور پیش کئے۔

نوشیروان نے کہا: ”میں چاہتا تھا کہ تو مجھے اپنے ہی باغ کے انگور کھلاتا مگر تو اپنے باغ کے انگور کھلانے کی جائے کسی اور کے باغ سے انگور لے آیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟“

میزبان نے کہا کہ: ”جناب میں نے ابھی تک ان انگوروں کا خرچ ادا نہیں کیا۔ ابھی تک میرے باغ کے انگوروں میں سلطان کا حصہ ہے۔ جب تک میں حکومت کی بنائی ادا نہ کر لوں اپنے باغ کے انگوروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔“

رعایا کی ایمانداری دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس سے کہا کہ: ”بادشاہ کو تمہارے انگور کے باغ کا کوئی علم نہیں ہے لیکن تو اس کے باوجود بھی اپنے باغ میں تصرف نہیں کرتا۔“

میزبان نے کہا: ”ہم نے سنا ہے کہ ہمارا سلطان عادل ہے اور جب سلطان عادل ہو تو رعایا بھی امین ہوتی ہے۔“ (تاریخ حمیرہ)

﴿﴾ خضر، منصور کو عدل و انصاف کی تلقین کرتے ہیں ﴿﴾

۱۳۳ھ میں منصور حج کرنے کے لئے مکہ آیا اور دارالندوہ میں قیام کیا۔ وہ رات کے پچھلے پہر بیت اللہ کے طواف کے لئے آتا اور نماز فجر پڑھ کر اپنی جگہ چلا جاتا تھا۔

ایک رات منصور طواف میں مصروف تھا کہ اس نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے خدا کے حضور یوں عرض کر رہا تھا: ”اللہم انا نشکو الیک ظہور البغی و الفساد فی الارض وما یحول بین الحق و اہلہ من الظلم“ یعنی خدایا! زمین پر ظلم و جور ظاہر ہونے کی ہم تیرے پاس شکایت کرتے ہیں، خدایا! تو دیکھ رہا ہے کہ حقداروں کو حق نہیں ملتا اور ظلم کا دور دورہ ہے۔“

منصور نے غور سے اس فریاد کو سنا اور اس شخص کو بلا کر کہا کہ: ”میں تجھ سے یہ کیا سن رہا ہوں؟“

اس شخص نے کہا: ”اگر تو میرا کتنا مانے تو میں تجھ سے چند باتیں کروں؟“

منصور نے کہا: ”تم جو چاہو خوشی سے کہو۔“

اس شخص نے کہا: ”خداوند عالم نے تجھے مسلمانوں کا نمبر مقرر کیا ہے مگر تو نے اپنے دروازے پر دربان کھڑے کر دیئے ہیں جو لوگوں کو تیرے پاس آنے سے منع کرتے ہیں۔ ظالم وزراء اور خائن حکام نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اسی لئے پوری مملکت میں ظلم و فساد کا بازار گرم ہو گیا ہے۔“

میں کبھی کبھی چین جاتا رہتا ہوں وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اتفاق سے اس کی قوت سماعت ختم ہو گئی تو وہ زارو قطار رونے لگا۔ وزراء نے رونے کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں قوت سماعت کی محرومی کی وجہ سے نہیں روتا، میں اس لئے رورہا ہوں کہ اب میں فریادیوں کی فریاد نہیں سن سکوں گا، اب اگرچہ میں قوت سماعت سے محروم ہو چکا ہوں مگر ابھی میرے پاس قوت بصارت موجود ہے، میں اسی قوت کے ذریعے فریادیوں کی مدد کروں گا۔“

پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے ملک میں مظلوم اور ستم دیدہ شخص کے علاوہ کوئی شخص سرخ رنگ کا لباس نہ پہنے تاکہ اسے مظلوم کے پہچاننے میں آسانی رہے۔ پھر وہ روزانہ ہاتھی پر سوار ہو کر پورے شہر کا چکر لگاتا تھا۔ اسے جہاں کہیں سرخ لباس والا شخص نظر آتا تو اس کی دادرسی کرتا۔ وہ بادشاہ اگرچہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا لیکن اس کی رعایا پروری اس کے حرص سے زیادہ تھی اور تو ماشاء اللہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تیرا تعلق ہے اس کے باوجود تو نے اپنی آسائشات کو مسلمانوں کے مفادات پر مقدم رکھا ہے۔“

مرد حق پرست کی کھری باتیں سن کر منصور رونے لگا اور کہا کہ: ”مکاشش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔“

پھر منصور نے کہا کہ: ”اب میری رہنمائی فرمائیں کہ نظام کا بگاڑ کیسے درست ہو سکتا ہے؟“

مرد خدا نے جواب دیا: ”نیک اہل علم اور پرہیزگار افراد کو اپنے قریب لاؤ اور ان کا احترام کرو۔“

منصور نے کہا: ”یہ طبقہ تو مجھ سے بھاگ کر دور دراز مقام پر چلا گیا ہے۔“
مرد حق نے کہا: ”وہ اس لئے تجھ سے دور ہوئے ہیں کہ انہیں خدشہ تھا کہ تو انہیں اپنے ظلم و ستم میں شریک کرے گا، اگر تو آج بھی اپنے دروازے مظلوموں کے لئے کھول دے اور ظالم دربانوں کو ہٹا دے اور مظلومین کی دادرسی کر تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ بھاگے ہوئے لوگ واپس آجائیں گے اور تیری مدد کریں گے۔“

منصور نے کہا: ”خدا یا! مجھے توفیق دے کہ میں اس مرد حق کی باتوں پر عمل کر سکوں۔“

اتنے میں مسجد الحرام میں اسے تلاش کیا گیا لیکن وہ بددہ خدا کہیں نظر نہ آیا، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مرد حق حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

سلطان جلال الدولہ اور مظلوم کسان

ایک مرتبہ سلطان جلال الدولہ اپنی عادت کے مطابق شکار کے لئے روانہ ہوا تو راستے میں ایک کسان نے اسے روک کر کہا کہ: ”کچھ دیر قبل آپ کے تین غلام یہاں آئے اور میرے کھیت میں سے بہت سے خربوزے توڑ کر لے گئے۔ آپ میری مدد کریں اور ان ظالموں کو سزا دیں۔“

سلطان نے کہا کہ: ”تم سرخ خیمہ کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ میں کچھ دیر بعد واپس آکر اس کا فیصلہ کروں گا۔“

کسان بادشاہ کے سرخ خیمہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ آیا تو اس نے اپنے ایک ملازم سے کہا کہ ”میں خروزہ کھانا چاہتا ہوں۔ لشکر میں جا کر پتہ کرو کسی کے پاس خروزہ ہو تو میرے پاس لاؤ۔“

سلطان کا ملازم کچھ دیر کے بعد ایک خروزہ لے کر آیا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا: ”اسے دیکھو اور بتاؤ کہ یہ خروزہ تمہارے کھیت کا ہے؟“

کسان نے خروزے کو دیکھ کر کہا: ”میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خروزہ میرے کھیت سے توڑا گیا ہے۔“

سلطان نے اپنے ملازم سے پوچھا: ”تم نے یہ خروزہ کس سے لیا تھا؟“
ملازم نے بتایا کہ: ”یہ خروزہ مجھے حاجب نے دیا تھا۔“

سلطان نے حکم دیا کہ حاجب کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حاجب سلطان کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان نے کہا کہ: ”یہ خروزہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تھا؟“

حاجب نے جواب دیا: ”آج صبح میرے تین غلام کچھ خروزے اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی چند دانے دیئے تھے۔“

سلطان نے کہا: ”تمہارے غلاموں نے اس کسان کے کھیت سے وہ خروزے چوری کئے تھے۔ لہذا تم جلدی سے اپنے غلام پیش کرو۔“

غلاموں کو کسی طرح سے بھٹک پڑ گئی کہ آج ان پر شامت آنے والی ہے۔ وہ یہ سن کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ حاجب نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں

نظر نہ آئے۔

سلطان نے کہا: ”وہ تینوں تیرے ملازم تھے اور تو میرا ملازم ہے۔ اگر وہ نہیں ملے تو میں تجھے کسان کے ہاتھ دیتا ہوں۔“

یہ کہہ کر سلطان نے اپنے حاجب کا ہاتھ پکڑا اور کسان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ شخص اپنے غلام تلاش نہیں کر سکا میں اسے تیری غلامی میں دیتا ہوں اور خیردار اسے آزاد نہ کرنا۔

کسان نے حاجب کا بازو پکڑا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ حاجب نے کسان کو تین سو دینار دے کر اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیا۔ پھر کسان کو لے کر حاجب سلطان کے پاس آیا اور کہا: ”ہمارے درمیان مصالحت ہو چکی ہے۔ میں نے تین سو دینار میں اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ یہ کسان اس بات کا گواہ اور اس وقت وہ راضی ہے۔“

سلطان نے کسان سے پوچھا: ”کیا واقعی تو راضی ہے؟“
کسان نے کہا: ”جی ہاں! میں اب راضی ہوں۔“
اس کے بعد سلطان نے حاجب کو معاف کر دیا۔

دشمن کے روبرو عدلِ علی کا تذکرہ

امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب معاویہ سیاہ و سفید کا مالک بنا تو عمارہ ہمدانی کی دختر سووہ اس کے حکام کے ظلم و جور کی شکایت کرنے کے لئے شام گئی۔

جب وہ معاویہ کے دربار میں پہنچی تو معاویہ نے اسے پہچان لیا اور کہا: ”کیا

تو وہی عورت نہیں ہے جو جنگِ صفین میں سنی کی افواج کو جنگ کے سنے
بر انگلیختہ کیا کرتی تھی؟“

جناب سوہ نے کہا: ”معاویہ! تو نے بالکل درست پہچانا میں وہی سوہ
ہوں جو صفین میں جوانوں کو جنگ کے لئے آمادہ کیا کرتی تھی۔“
معاویہ نے کہا: ”یہاں کیسے آئی ہو؟“

جناب سوہ نے کہا: ”اس وقت تو حاکم ہے اور اللہ نے حاکم پر کچھ فرائض
عائد کئے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فریضہ رعایا کی جان و مال کی حفاظت ہے
لیکن تیرے حکام کی حالت یہ ہے کہ ”لا يزال يعدو علينا من قبلك من يسمو
بمكانك ويبطش بسلطانك فيحصونا حصد السبل ويدومنا درس
الحرمل يسومنا الخف ويدبقنا الحنف“

تیری طرف سے ہمارے پاس جتنے بھی عامل آتے ہیں وہ ظلم و ستم کرتے
ہیں اور ہم پر جفا کرتے ہیں، گندم کے خوشوں کی طرح ہماری کٹائی کرتے ہیں،
ہر مل کی طرح ہمیں اپنے پاؤں تلے روندتے ہیں، ہماری جان کو ذلت و رسوائی
سے دھکیلتے ہیں اور ہمیں موت کا جام پلاتے ہیں۔

بمر بن ارطاة تیری جانب سے آیا تھا اس نے ہمارے مردوں کو قتل کیا اور
ہمارا مال لوٹا۔ ہم اب بھی تجھ سے یہی کہیں گے کہ ایسے ظالم نمائندوں کو ہم سے
ہٹالے ورنہ ہم تیری مخالفت کریں گے۔“

معاویہ نے کہا: ”کیا تو اپنے قبیلہ کی وجہ سے مجھے ڈرانا چاہتی ہے؟ میں
تجھے ایک بد مست اونٹ پر سوار کرا کے بمر بن ارطاة کے پاس بھیج دوں گا پھر جو وہ
مناسب خیال کرے گا تم سے وہی سلوک کرے گا۔“

حضرت عمارہ نے چند لہجہ تک سر کو جھکایا پھر اس نے یہ دو شعر پڑھے:

صلى الا له على جسم تضمنها
قبر فاصبح فيه العز مدفونا
قدحالف الحق لا يبغي به بدلا
فصار بالحق والايامن مقرونا

اللہ کی صلوات ہو اس جسم پر جو قبر میں مدفون ہو گیا اور اس کے ساتھ
انسانی عزت و حمیت بھی دفن ہو گئی۔

وہ ساری زندگی حق کا حلیف رہا، حق کے بدلے میں اس نے کسی چیز کو
قبول نہیں لیا اور اس کی تمام عمر حق اور ایمان کی رفاقت میں گزر گئی۔

معاویہ نے کہا: ”سوہ! تمہارے ان اشعار کا اشارہ کس کی جانب ہے؟“
خاتون نے کہا: ”میرا اشارہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرف ہے۔“

تم نے اپنا کردار بھی دیکھا اور مجھ سے عدل علی کا بھی ایک واقعہ سن لو:
”امیر المؤمنین علی السلام نے ایک شخص کو عاملِ ذکوۃ بنا کر ہمارے پاس
بھیجا، اس شخص نے ہم پر ستم کیا، میں اس کی شکایت کرنے کے سنے سنی کے
پاس گئی، اس وقت نمازِ عشاء کے لئے صفیں درست ہو رہی تھیں، جیسے ہی ان
کی نظر مجھ پر پڑی تو پوچھا: ”کوئی کام ہے؟“
میں نے عرض کی: ”جی ہاں۔“

آپ میرے قریب آئے اور پوری رافت و شفقت سے مجھ سے میرا حال
پوچھا۔ میں نے انہیں ان کے عامل کے ظلم کی شکایت کی تو اس وقت علی رو
پڑے اور آپ کے آنسو آپ کی چہرہ پر جاری ہو گئے اور کہا: ”اللهم انت

الشاهد على و عليهم انى لم امرهم بظلم خلقك ولا تبرك حقت

خدایا! تو میرا اور ان کا گواہ ہے، میں نے انہیں تیری مخلوق پر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا اور تیرا حق ترک کرنے کا بھی فرمان جاری نہیں کیا۔
اس کے بعد انہوں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر یہ عبارت لکھی:

بسم الله الرحمن الرحيم

قد جاءكم بينة من ربكم فاعرفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياهم ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها . فاذا قرأت كتابى هذا فاحفظ بها فى يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام.

اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے۔ تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل و برہان آچکی ہے، ترازو اور پیمانوں کو درست اور کامل رکھو لوگوں کی اشیاء کم نہ کرو اور اصلاح کے بعد زمین پر فساد برپا مت کرو۔ جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو جو کچھ تم جمع کر چکے ہو اس کی حفاظت کرو۔ ہم ایسے شخص کو بھیج دیں گے جو تم سے ہماری امانت کو وصول کرے گا۔ والسلام

حضرت امیر المؤمنین نے خط لکھ کر میرے حوالہ کیا۔ خدا کی قسم انہوں نے خط کو نہ ہی بد کیا اور نہ ہی مریریں لگا کر اسے حکم کیا۔ میں خط لے کر گئی تو وہ شخص فوراً معزول ہو گیا۔

جب معاویہ نے حضرت سوادہ کی یہ تقریر سنی تو کہا: ”جو یہ چاہتی ہے اسے لکھ کر دے دو اور اسے راضی کر کے اس کے وطن روانہ کرو۔“ (مشکوٰۃ)

بہائی جلد ۲ صفحہ ۱۷۳)

مساواتِ حیدری

جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلافت راشدہ ملی تو آپ منبر پر مجھے اور خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ”آدم نے کسی غلام اور کنیز کو جہنم نہیں دیا تھا، آدم نے تمام بچوں کو آزاد جنم دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے ایک کو دوسرے کا مالک بنا دیا، تو جس کو پریشانی ہو تو اسے چاہئے کہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اور اپنے خدا پر احسان نہ جتائے۔

ہمارے پاس کچھ مال و دولت پہنچی ہے۔ ہم اس دولت کو کالوں اور گوروں میں برابر برابر تقسیم کریں گے۔“

اس وقت مروان بن الحکم طلحہ، زبیر کے قریب بیٹھا ہوا تھا اس نے انہیں کہا کہ علی کے ان الفاظ کا اشارہ تمہاری جانب ہے۔

پھر آپ نے ہر شخص کو تین تین دینار عطا کئے۔ آپ نے ایک انصاری کو تین دینار دیئے اس کے بعد ایک تازہ آزاد کردہ غلام کو بھی آپ نے تین دینار دیئے۔

انصاری نے کہا: ”میں نے اس غلام کو کل آزاد کیا تھا کیا اس کا حصہ اور میرا حصہ برابر ہے؟“

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”جب میں قرآن مجید میں غور کرتا ہوں تو نبی اسمائیل (جن کی ماں کنیز تھیں) اور نبی اسحاق (جن کی ماں آزاد تھیں) میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔“

دراصل مساواتِ حیدری کو دیکھ کر ہی لوگوں نے آپ سے جنگِ جمل کرنے کی صفائی۔

خلیفہ ثالث کے دور حکومت میں ایک "اشرافیہ" طبقہ معرض وجود میں آچکا تھا۔ جنہوں نے بیت امال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا اور مدگان خدا کو اپنا نام رکھتے تھے اور مسلمانوں کے جملہ وسائل پر ان کا تصرف تھا۔ پورے براعظم کا شخص فرد واحد کی جیب میں جاتا تھا اور تمام حزرے، جائیدادیں ان کے دستِ تصرف میں دے دی گئی تھیں اور ان کے ہاں سینکڑوں غلام کام کرتے تھے۔

غرضیکہ عالم اسلام کے وسائل کو لوٹ کر ان لوگوں نے بے تحاشہ دولت جمع کر لی تھی۔ (خلیفہ ثالث کے مد حکومت میں کیا کچھ ہوا اس کے لئے محترم تیجانی سہوی کی کتاب الیہ جمعرات کا مطالعہ فرمائیں)

مساوات حیدری سے اشرافیہ طبقہ کے مفادات پر زور پڑتی تھی اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ علی ان کی تمام تر جاگیریں واپس لے لیں گے۔ انہوں نے اپنی جاگیروں کے تحفظ کے لئے علی کے خلاف ایسا کر لیا تھا۔

چنانچہ طلحہ و زبیر علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہہ جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا "میں سمجھتا ہوں کہ تم وہاں جا کر فتنہ و فساد برپا کرو گے۔ اگر تمہیں ہر قیمت پر جانا ہی ہے تو سخت قسموں کے ساتھ میرے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کرو کہ تم کوئی خیانت نہیں کرو گے۔"

ان دونوں نے قسمیں کھا کر آپ کی دوبارہ بیعت کی اور وعدہ کیا کہ وہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔

جب وہ پشت دکھا کر وہاں سے چلے تو آپ نے فرمایا: "ان کے سفر کا مقصد خیانت ہے۔"

ساتھیوں نے کہا: "تو آپ انہیں واپس کیوں نہیں بلوا لیتے؟"

تو آپ نے فرمایا: "لیفطی اللہ امر! کان مفعولا" تاکہ جو کچھ خدا نے مقرر کیا ہے وہ ہو کر رہے۔"

طلحہ و زبیر مکہ کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں ہر ملنے والے کو یہ کہتے رہے کہ ہم نے مجبور ہو کر علی کی بیعت کی تھی۔

جب حضرت علی نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا: "خدا کی قسم انہوں نے اپنے آپ کو بدترین طریقہ سے قتل ہونے کے لئے پیش کیا ہے۔ یہ دونوں انتہائی مجھے ایک آراستہ لشکر اور دلیر لوگوں کے ساتھ دیکھیں گے اور یہ دونوں قتل ہو جائیں گے۔"

طلحہ و زبیر نے واقعی خیانت کی اور ام المؤمنین عائشہؓ کو اپنے ساتھ ملا کر بہرہ منیچے، وہاں مسلمانوں کے بیت المال کو لوٹا اور کئی بے گنہہ افراد کو قتل کیا۔ مولا علی کو مجبور ہو کر ان کے مقابلہ میں آنا پڑا۔

جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے تو حضرت علی نے زبیر کو آواز دے کر بلایا۔ زبیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر علی کے پاس آیا اور اتنا قریب ہوا کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔

اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے زبیر کو وہ وقت یاد دلاتے ہوئے فرمایا "زبیر! تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے میری گردن میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا: "زبیر علی سے تجھے محبت ہے؟"

تو نے کہا تھا: "میں علی سے کیوں محبت نہ کروں جب کہ وہ میرا ماموں زاد بھائی ہے۔"

یہ سن کر رسول مقبولؐ نے فرمایا تھا: ”تو عنقریب علیؑ سے جنگ کرے گا اس وقت تو ظالم ہوگا اور علیؑ مظلوم ہوگا۔“

زیر نے یہ سن کر کہا: ”علیؑ! تم نے اچھا کیا مجھے بھولی ہوئی بات یاد دلائی۔“

یہ کہہ کر اپنے لشکر کی طرف گیا، اس کے بیٹے عبد اللہ نے باپ کی حالت دیکھ کر کہا: ”مجھے تمہاری حالت و مگرگوں نظر آتی ہے۔“

زیر نے کہا ”علیؑ نے مجھے ایک بھولی ہوئی حدیث یاد دلائی ہے اب میں علیؑ سے جنگ نہیں کروں گا۔ میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔“

عبد اللہ نے کہا: ”اصل بات یہ ہے کہ تم عبدالمطلب کی لولادوں کی تلواریں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہو۔“

زیر نے کہا: ”تو مجھے جنگ کے لئے جوش دلانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم میں علیؑ سے جنگ نہیں کروں گا۔“

عبد اللہ نے کہا: ”قسم کا کفارہ ادا کرو تاکہ کل قریش کی عورتیں تمہیں بزدل ہونے کا طعنہ نہ دے سکیں۔“

زیر نے کہا: ”میں نے قسم کے کفارہ میں اپنے غلام کھول کو آزاد کیا۔“

پھر اس نے ایک نیزہ ہاتھ میں لیا اور اس کے لوہے کے سرے کو توڑا اور علیؑ کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔

سولہ علیؑ علیہ السلام نے جب اسے ٹوٹے ہوئے نیزہ سے حملہ کرتے دیکھا تو سپاہیوں سے فرمایا: ”اسے راستہ دے دو۔“ سپاہیوں نے اسے راستہ دیا۔

الغرض زیر نے تین مرتبہ ایسا ہی کیا، پھر بیٹے کو خطاب کر کے کہا: ”تو

نے دیکھا کہ تیرا باپ بزدل نہیں ہے۔“

عبد اللہ نے اپنے باپ سے کہا: ”اب تم نے بزدلی کا الزام اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔“

پھر زیر نے اپنے لشکر کو چھوڑا اور وادی السباع سے اس کا گزر ہوا تو وہاں انصاف بن قیس دو ہزار کا لشکر لے بیٹھا تھا، اسے بتایا گیا کہ زیر اکیلا واپس جا رہا ہے۔

اس نے کہا: ”میں آئیے زیر کو کیا کروں جبکہ دوسرے مسلمان آپس میں جنگ کر رہے ہیں اور ایسا شخص یقیناً قتل کے لائق ہے۔“

لن جر موز نامی ایک جوان گھوڑے پر سوار ہو کر زیر کے پاس گیا۔ زیر نے پوچھا: ”تجھے مجھ سے کوئی کام ہے؟“

لن جر موز نے کہا ”جی ہاں! میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ دو لشکروں کا کیا مانا؟“

زیر نے بتایا: ”جب میں وہاں سے جدا ہوا تھا تو دونوں لشکر آپس میں محتمم گتھا تھے۔“

لن جر موز زیر کے ساتھ چلنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو زیر نے کہا ”اگر تو مجھے امان دے تو میں نماز پڑھ لوں؟“

لن جر موز نے کہا: ”ہاں! شرط یہ ہے کہ تو بھی مجھے امان دے۔“

پھر زیر نے وضو کر کے نماز شروع کی تو لن جر موز نے اس پر ناگہانی طور پر حملہ کیا اور زیر کو قتل کر دیا۔ اس کے سر کو جدا کیا اور اس کی تلوار اور انگوٹھی

مالک اشتر کا مشورہ اور حضرت علی کا جواب

ایک دن حضرت مالک اشتر نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی "مولا! ہم نے اہل کوفہ کے ذریعہ سے جنگ جمل فتح کی اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو ساتھ ملا کر صفین میں شامیوں کو شکست دی۔ لوگ ہم سے پہلے آپ کی مساوی تقسیم سے راضی تھے مگر میری نگاہیں اس وقت یہ دیکھ رہی ہیں کہ معاشرے کے بااثر افراد اس تقسیم پر راضی نہیں ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر معاویہ کے پاس پٹ گئے ہیں۔ آپ اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہیں کہ دین اور حقیقت کے طلب کرنے والے افراد کم ہیں اور دنیا طلب لوگ زیادہ ہیں۔ اگر آپ بااثر شخصیت کو وظائف میں ترجیح دیں تو وہ آپ کی خیر خواہی کریں گے اور آپ کے مددگار بن کر آپ کے دشمنوں سے نبرد آزما ہوں گے۔"

حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: "مالک! ہماری عدالت کی روش قرآن مجید کی اس آیت پر مبنی ہے: "من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها" جس نے نیکی کی تو اپنے لئے کی اور جس نے برائی کی تو اس کا نقصان اسے ہی برداشت کرنا ہوگا۔"

اس کے باوجود مجھے ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ خدا نخواستہ مجھ سے ذرہ برابر انحراف نہ ہو جائے اور جہاں تک لوگوں کے پرآگندہ ہونے کا سوال ہے تو خدا جانتا ہے کہ یہ لوگ اس لئے فرار نہیں کر رہے کہ میں نے ان پر کوئی ظلم کیا ہے یا انہیں مجھ سے بہتر حاکم مل گیا ہے۔ یہ لوگ فقط فانی دنیا کے طلب گار ہیں۔ یہ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہیں اور قیامت کے دن ان

انھد کر انھت بن قیس کے پاس آیا اور کہا "میں نے زہیر کو قتل کیا ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے ایسا کر کے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے؟"

انھت بن قیس نے کہا: "اپنے فعل کی اچھائی یا برائی معلوم کرنے کے لئے تجھے علی بن ابی طالب کے پاس جانا چاہئے۔"

ابن جریر موز زہیر کا سر اور تلوار لے کر مولائے مقربان کے پاس آیا اور داخل کی اجازت چاہی اور دربان سے سنا کہ علی سے کون ابن جریر موز زہیر کی تلوار اور سر لے کر آیا ہے۔ (بہت سی روایات میں صرف تلوار کا ذکر ہے)

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: "تو نے اسے قتل کیا؟"

ابن جریر موز نے کہا: "جی ہاں!۔"

حضرت علی نے فرمایا: "خدا کی قسم صفیہ کا بیٹا (زہیر) بزدل اور پست نہ تھا

لیکن موت اور قتل لغزشیں اپنا کام دکھایا کرتی ہیں۔"

پھر آپ نے قاتل کے ہاتھ سے تلوار لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور

فرمایا: "طالما جلی بہ الکرب عن وجہ رسول اللہ" یہ وہ تلوار ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کئی مرتبہ تکالیف کو بنایا تھا۔"

ابن جریر موز نے انعام کا مطالبہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

"میں نے پیغمبر اکرم سے سنا ہے کہ صفیہ کے بیٹے (زہیر) کے قاتل کو دوزخ کی بشارت ہو۔"

ابن جریر موز ناکام و نامراد ہو کر واپس پلٹ گیا۔ (شرح صحیح البلاغ ابن ابی

الحدید جلد ۱ صفحہ ۱۳)

سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دین کے لئے کام کیا تھا یا دنیا کے لئے؟

اور جہاں تک بااثر افراد کو مال و دولت دے کر اپنے ساتھ ملانے کا سوال ہے تو میں کسی کا حق کبھی بھی دوسرے کو دینے پر آمادہ نہیں ہوں اور رشوت دے کر کسی کی نصرت کا طالب نہیں ہوں۔“

عقیل سے گرم لوہے کی داستان سنیں

ایک دن معاویہ نے عقیل سے کہا: ”ہمیں گرم لوہے کی داستان سناؤ۔“
عقیل علی کے عدل کو یاد کر کے پہلے بہت روئے پھر کہا: ”میرے مالی حالات سخت خراب ہوئے تو میں اپنے بھائی علی کے پاس گیا اور ان سے مالی مدد کی درخواست کی لیکن علی نے میری درخواست قبول نہ کی۔

پھر میں اپنے بھوک سے بلیخے ہوئے بچوں کو جمع کر کے علی کے پاس لے گیا اور ان سے مالی امداد کا تقاضا کیا تو انہوں نے کہا کہ آج رات تم آنا۔

جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے ایک بچے کو لے کر علی کے پاس گیا تو علی نے میرے بچے کو واپس بھیج دیا اور مجھ سے فرمایا: ”میرے قریب آ جاؤ۔“

میں اپنی تنگ دستی کی وجہ سے سمجھا کہ علی مجھے سونے کی تھیلی دینا چاہتے ہیں، جیسے ہی میں نے ہاتھ دراز کیا تو پتے ہوئے لوہے پر میرا ہاتھ لگا اور میں نے اسے فوراً اپنے ہاتھ سے گرا دیا اور جیسا کہ بیل قصاب کی چھری تلے چبھتا ہے میں بھی اس طرح سے چیخنے لگا۔

علی نے فرمایا: ”عقیل! تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو اس لوہے سے گھبرا گیا جسے تیرے بھائی نے گرم کیا ہے اور اس دن تیری اور میری کیا حالت

ہوگی جب دوزخ کی زنجیر پہنا دی جائے گی، پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی: ”اذلا غلال فی اعنا فہم والاسلاسل یسبحون“ جس دن ان کی گردنوں میں طوق و زنجیر ہوں گے اور انہیں کھینچا جائے گا۔“

پھر کہا: ”عقیل! خدا نے بیت المال میں جتنا حصہ مقرر کیا ہے اسی پر قناعت کرو، اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کرو گے تو یہی گرم لوہا تمہیں ملے گا۔ اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔“

معاویہ نے عقیل کی داستان سن کر تعجب کیا اور کہنے لگا: ”ہیہات ہیہات عقلت النساء ان یلدن بمثلہ“ عورتیں علی جیسا بیٹا جننے سے بانجھ ہو گئی ہیں۔“

حضرت علی علیہ السلام نے نبج البلاغہ کے خطبہ ۲۲۱ میں عقیل کی داستان بیان کرنے کے بعد ایک اور شخص اشعث بن قیس کی داستان کو ان الفاظ میں بیان کیا: ”واعجب من ذلك طارق طرفنا بملفوفة فی و عانها و معجونة شنتھا كانما عجت ہرقی حیا“

اور اس سے عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت شد میں گندھا ہوا حلوہ ایک بندرتن میں لئے ہوئے ہمارے گھر آیا جس سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا اس کی تہ میں گوندھا گیا ہے۔“

میں نے اس سے کہا: ”کیا یہ کسی بات کا انعام ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے جو کہ ہم اللہ بیت پر حرام ہے۔“

اس نے کہا: ”نہ یہ ہے نہ وہ ہے بلکہ یہ تھک ہے۔“

تو میں نے کہا: ”پھر مردود عورتیں تجھ پر روئیں، کیا تو دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لئے آیا ہے کیا تو بھک گیا ہے؟ یا پاگل ہو گیا ہے یا یوں ہی ہڈیاں بک رہا ہے۔“

خدا ان قسم اگر ہفت اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیئے جائیں کہ صرف اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چیونٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں گا۔ یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو مڈی کے منہ میں ہو کہ جسے وہ چبا رہی ہو۔

علی کو فتا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ۔ ہم عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لغزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواستگار ہیں۔“ (سُج البلاغہ خطبہ ۲۲۱ ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ)

چند روایات

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته.

”سُج جلد ۲ صفحہ ۱۶۸“

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو لوگوں کے ساتھ معاملات رکھے تو ان پر ظلم نہ کرے اور ان سے گفتگو کرے تو جھوٹ نہ بولے اور ان سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ ایسے شخص کی جواں مردی کامل

ہے اور اس کی عدالت ظاہر ہے اور اس سے اخوت واجب ہے اور اس کی نیابت حرام ہے۔“

قال علي عليه السلام في قول الله تعالى. يا امر بالعدل والاحسان وابتاني دي القربى العدل الانصاف والاحسان التفضل وقال في وصيته لانه الحسن يا بني اجعل نفسك مسيرنا فيما بينك وبين غيرك فاحب لغيرك ماتحب لنفسك واكره له ماكره لنفسك ولا تظلم كما لاتحب ان تظلم واحسن كما تحب ان يحسن ايدك واستغفح من نفسك ماتستغفح من غيرك وارضى من الناس بما نرضاه لهم من نفسك ولا تقل ما لا تعلم وقل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب ان يقال لك.

”حد الاثر جلد ۱۵ صفحہ ۱۳۶ نقل از سُج البلاغہ“

حضرت علی علیہ السلام نے آیت کریمہ ”ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان“ (بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے) کی تفسیر میں فرمایا کہ ”عدل و انصاف لوگوں کو ان کا حق دینے سے عبارت ہے اور احسان اپنے مال کا اضافہ کر کے کسی کو دینے سے عبارت ہے۔“

آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا: ”اے فرزند! اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملہ میں اپنی ذات کو میزان قرار دو۔ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کر دو اور جو اپنے لئے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لئے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو اسی طرح دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔“

دوسروں کی جس برائی کو ناپسند کرتے ہو اسے اپنے لئے بھی برا تصور کرو اور جس رویے کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو اسی کو دوسروں کے لئے بھی اچھا سمجھو اور جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ بلاؤ اگرچہ تمہاری معلومات کم ہوں۔ دوسروں کے لئے وہ بات نہ کہو جو اپنے لئے سزاگوار نہیں کرتے۔“

وسئل علی علیہ السلام عن الایمان، فقال الایمان علی اربع دعائم، علی الصبر، والیقین، والعدل، والجهاد والعدل منها علی اربع شعب علی غائص الفہم، وغور العلم، وزهرة الحکم ورساخة الحلم۔ فمن فہم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صور عن شرائع الحکم ومن حلم لم یفترط فی امرہ وعاش فی الناس حمیداً۔

حضرت علی علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”ایمان چار ستونوں پر قائم ہے صبر، یقین، عدل اور جہاد اور عدل کی بھی چار شاخیں ہیں۔ تمہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلہ کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔“

چنانچہ جس نے غور و فکر کیا۔ وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلہ کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا اور جس نے علم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔“

حضرت علی علیہ السلام جیسا عادل آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا، آپ عدل کے لئے اتنے حساس تھے کہ اپنے قاتل کے لئے بھی بے انصافی کو پسند نہیں فرمایا۔

عبدالرحمن بن ملجم کو آپ کے پاس پکڑ کر لایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ یہ شخص لوگوں میں کتنا پھرتا ہے کہ۔ ”میں علی کو قتل کروں گا۔“ لہذا آپ اسے سخت سزا دیں۔

مولا علی علیہ السلام نے فرمایا: ”میں مجرم کو جرم سے پہلے سزا کیسے دے سکتا ہوں اور جب اس لعین نے مسجد کوفہ میں آپ کو ضرب ماری اور آپ شدید زخمی ہوئے تو آپ نے اپنے فرزندوں امام حسن اور امام حسین علیہما السلام اور بنی عبدالمطلب کو جمع کر کے فرمایا:

”یابنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوفاً تقولون قتل امیر المؤمنین ألا لاقتل بی الا قاتلی۔ انظروا اذا انامت من ضربته هذه فاضربوه ضربة ولا یمثل بالرحل فانی سمعت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ یقول ایاکم والمثلة ولو بالکلب العقور۔“

”اے عبدالمطلب کے بیٹے! ایسا نہ ہونے پائے کہ تم ”امیر المؤمنین قتل ہو گئے“ کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو! میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے اور دیکھو! جب میں ایک ضرب سے مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار! کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی ہو۔“ (بخاری سے اقتباسات)

عن ابی عبد اللہ قال ثلاثة هم اقرب الخلق الی اللہ عزوجل یوم القیامة حتی یفرغ اللہ من الحساب، رجل لم تدعه قدرة فی حال عضبه الی ان ینحیف علی

تحت يده ورجل مشى بين اثنين قلم يعمل مع احدهما على الاخر بشعيرة
ورجل قال بالحق فيما له و عليه.

”الکافی جلد ۲ صفحہ ۱۳۵“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ”قیامت کے دن تین قسم کے اشخاص کی
اللہ تعالیٰ سے قرب و منزلت باقی مخلوق کی بہ نسبت زیادہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ
حساب سے فارغ ہو جائے:

- ۱۔ وہ شخص جو غصہ میں آکر اپنے ماتحت پر ظلم نہ کرے۔
- ۲۔ وہ شخص جو دو افراد کی صلح کے لئے کوشش کرے اور جو کے دانے کی
برابر بھی کسی ایک کی طرف مائل نہ ہوا ہو۔
- ۳۔ جو ہمیشہ حق کے خواہ اس کے فائدہ میں ہو یا نقصان میں ہو۔“

عن ابی عبد اللہ قال ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب و ثلاثة يدخلهم الله
النار بغير حساب. فاما الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب فامام عادل و
تاجر صدوق و شيخ افنى عمره فى طاعة الله عزوجل واما الثلاثة الذين
يدخلهم الله النار بغير حساب فامام جائر و تاجر كلوب و شيخ زان.

”حدیث الاوار جلد ۱۵ صفحہ ۲۰۵“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ”تین قسم کے افراد کو اللہ بغير حساب کے
جنت میں داخل کرے گا اور تین قسم کے افراد کو بغير حساب کے دوزخ میں
داخل کرے گا:

بغير حساب جنت میں جانے والے یہ ہیں۔

- ۱۔ عادل حاکم

۲۔ سچا تاجر

۳۔ وہ بوڑھا جس نے اپنی زندگی اطاعت خدا میں صرف کی ہو۔“

اور وہ تین قسم کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ حساب کے بغیر دوزخ میں داخل کرے
گا۔ وہ یہ ہیں:

۱۔ ظالم حاکم

۲۔ جھوٹا تاجر

۳۔ زانی بوڑھا

عن امیر المؤمنین قال ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله يوم
القيامة حوائجه و ان احذهدية كان غلولا وان احذرشوة فهو مشرك

”حدیث الاوار جلد ۱۵ صفحہ ۲۱۱“

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ”جو فرمانروا اور والی لوگوں کی حاجات پوری
نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ اس کی حاجات پوری نہیں کرے گا۔ اگر اپنے
فرائض کے لئے وہ ہدیہ قبول کرتا ہے تو وہ خائن ہے اور اگر رشوت لیتا ہے تو
مشرک ہے۔“

وفى رواية قال لعمر بن الخطاب ثلاث ان حططتهن وعملت بهن كفتك ما
سواهن وان تركتهن لم يسمعك شئى سواهن قال وما هن يا ابا الحسن؟ قال
اقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله فى الرضا و السخط
والقسم بالعدل بين الاحمر والا سود فقال له عمر لعمرى لقد اوجزت
وابلغت.

”حدیث الاوار جلد ۱۵ صفحہ ۲۱۲“

مذمت، اسراف و سخت گزرانی

بہلول نے قصر سلطانی کی دیوار پر کیا لکھا؟

ایک مرتبہ ہارون الرشید اپنے زیر تعمیر محل کا معائنہ کرنے گیا۔ راستے میں بہلول سے ملاقات ہو گئی۔

ہارون نے انہیں اپنا محل دکھایا اور پھر ان سے فرمائش کی کہ: "کوئی خوبصورت جملہ محل کی بیرونی دیوار پر تحریر کرے۔"

بہلول نے کوئلہ اٹھا کر قصر سلطانی کی بیرونی دیوار پر یہ عبارت تحریر کی۔
"رفع الطین علی الطین و وضع الدین"

مٹی پر مٹی کو بلند کیا گیا اور دین کو خوار و پست کر دیا گیا۔

پھر بہلول نے ہارون سے کہا: "تو نے یہ محل اگر اپنی حلال دولت سے تعمیر کرایا تو یہ اسراف ہے اور اللہ کا فرمان ہے: "واللہ لایحب المرفین" اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔"

اور اگر یہ محل لوگوں کے مال سے تعمیر کر لیا ہے تو یہ خیانت ہے اور صریح ظلم ہے اور اللہ کو خیانت اور ظلم سے نفرت ہے۔"

حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن خطاب سے کہا "تین چیزوں کو تم نے یاد رکھا اور ان پر عمل کیا تو وہ تجھے باقی چیزوں سے بے نیاز کر دیں گی اور اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو ان کے علاوہ باقی چیزیں تمہیں فائدہ نہ دیں گی۔"
حضرت عمر نے پوچھا: "ہو الحسن! وہ کون سی چیزیں ہیں؟"
آپ نے فرمایا:

۱- حدود خدا کو جاری کرنا خواہ تمہارا قریبی ہو یا قریبی نہ ہو۔

۲- خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا۔

۳- سرخ لور سیاہ میں وصت المال کو بر لہ تقسیم کرنا۔

حضرت عمر نے کہا: "یا علی! آپ نے مختصر لور جامع نصیحت فرمائی۔"

فضول خرچی کی بدترین مثالیں

ابویسر بغدادی کہتا ہے کہ اسلام میں دو ویسے ایسے گزرے ہیں جن کی مثال نہ پہلے ملتی ہے اور نہ ہی مستقبل میں ان کی مثال ملے گی۔

پہلا ولیمہ زبیدہ اور ہارون الرشید کی شادی پر دیا گیا تھا۔ ولیمہ کے شرکاء پر سونے چاندی کی بارش کی گئی اور ہارون الرشید کے دور کے علاوہ مہدی عباسی کے دور میں سرکاری خزانہ سے پانچ کروڑ دینار کا خرچہ ہوا۔

دوسرا ولیمہ حسن بن سہل کی بیٹی پوران دخت اور مامون الرشید کی شادی پر دیا گیا تھا۔

ابو الفرج لکھتے ہیں کہ یہ ایک یادگار ولیمہ تھا اس جیسا ولیمہ نہ تو دورِ جاہلیت میں ہوا اور نہ ہی مستقبل میں ایسے پر تکلف ولیمہ کی توقع ہے۔

اس ولیمہ میں مامون نے جو خرچہ کیا سو کیا لیکن حسن بن سہل نے نوازشات کی حد کر دی تھی۔ اس تقریب میں جتنے بنی ہاشم، سہ سالار اور کاتب اور حاجب شریک ہوئے ان سب میں پرچیاں تقسیم کی گئی تھیں۔

اور کسی پرچی میں باغ کا ملکیت نامہ تھا، کسی پرچی میں کنیز کا نام درج تھا اور کسی پرچی میں بہت بڑا انعام لکھا ہوا تھا اور جس شخص کو جیسی پرچی ملی تو وہ پرچی لے کر حسن کے ملازم کے پاس گیا اور اس نے پرچی پر لکھا ہوا انعام اس کے حوالہ کیا۔

اس کے علاوہ باقی شرکاء کے لئے درہم و دینار اور نافعہ منگ و عنبر تقسیم کئے گئے۔ شادی کے شرکاء کے آنے جانے کے لئے چھتیس ہزار ملاحوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ دلہن کی رونمائی کے لئے سونے کی تاروں سے بنی

ہوئی چٹائی تیار کرائی گئی تھی اور اس چٹائی پر دلہن کے ساتھ زبیدہ دختر جعفر اور حموندہ دختر ہارون بیٹھی تھیں۔

جب مامون الرشید آکر اس چٹائی پر بیٹھا تو سونے کے ظروف میں قیمتی جواہرات ٹار کئے گئے لیکن خلفاء کی بیٹیوں نے ایک ذر کو بھی ہاتھ نہ لگایا۔

مامون نے شاہی خواتین سے کہا: ”اگرچہ آپ کو ان بیش بہا جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دلہن کے احترام کے لئے تمہیں یہ جواہرات اٹھالینے چاہئیں۔“

اس رات تیس (۳۰) رطل وزنی (ایک رطل عراقی بارہ اوقیہ کا ہوتا ہے۔ اور ہر اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہوتا ہے اور ہر درہم اٹھارہ جنوں کے برابر ہوتا ہے) عنبر کی شمع لائی گئی۔

مامون نے قیمتی شمع دیکھ کر کہا: ”یہ فضول خرچی ہے۔“
زبیدہ نے وہ شمع اٹھالی اور اس کے بجائے ایک استعمال شدہ شمع جلائی گئی۔
مامون نے زبیدہ سے پوچھا: ”حسن بن سہل نے اس ولیمہ پر کتنا خرچ کیا ہے؟“

زبیدہ نے کہا: ”تیس (۳۰) کروڑ سے بیستیس (۳۷) کروڑ دینار خرچ کیا ہے۔“

جب حسن بن سہل نے زبیدہ کا تحفہ سنا تو اس نے کہا: ”زبیدہ کو کیا علم ہے، ولیمہ پر اخراجات اس نے تو نہیں کئے تھے۔ اس ولیمہ پر میرے اسی کروڑ دینار خرچ ہوئے ہیں۔“

اس شادی کی دعوت طعام کے ایجنٹوں نے لائے گئے چار ہزار گدھے

مقرر تھے اور پورے چار ماہ تک ایندھن جمع ہوتا رہا۔ مگر وہ ایندھن بھی کافی نہ ہو سکا تو دیگیوں کی نیچے پٹ سن کی آگ جلائی گئی۔

شادی کے لئے خصوصی طور پر ایک شہر آباد کیا گیا تھا جس کا نام ”فہم الصلح“ رکھا گیا تھا۔ مامون وہاں اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ دلہن کی داوی نے دو لہنا دلہن پر جواہرات کی بارش کی۔

مامون نے کنیزوں کو حکم دیا کہ جواہرات اکٹھے کئے جائیں۔ پھر مامون نے تمام جواہرات دلہن کی داوی کو دے کر کہا ”ہماری طرف سے یہ آپ کی نذر کئے جائے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی اور خواہش ہو تو وہ بھی ہم پوری کریں گے۔“
دلہن کی داوی نے کہا: ”میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ لہ ایمین ممدی کو معاف کر دیں۔“

مامون نے لہ ایمین ممدی کو معاف کر دیا۔

قارئین کرام! آپ نے دو بادشاہوں کے ولیمہ پر اٹھنے والے اخراجات ملاحظہ فرمائے اور آپ سابقہ جلدوں میں یہ واقعہ بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بیت المال کا ہار عید کے روز پہننے کی بھی اجازت نہیں دی تھی اور بیٹی سے ہار یہ کہہ کر واپس لے لیا تھا کہ ”اگر اس عاریت کی ضمانت موجود نہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا۔“

اسی سے علی علیہ السلام کے طرز زندگی اور نام نہاد خلفاء کے طرز زندگی کا واضح فرق نظر آتا ہے اور ہر باشعور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ علی علیہ السلام انسانیت کے رہبر تھے اور اموی اور عباسی سلاطین بدترین حکام تھے جن کا مطمح نظر حصول دولت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

تمام پونجی نہ لٹائیں

ولید بن صبیح کتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک سائل آیا، امام نے اسے خیرات دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ نے اسے بھی خیرات دی۔ پھر تیسرا سائل آیا تو آپ نے فرمایا: ”معاف کرو خدا تمہیں وسعت دے۔“

اس کے بعد امام علیہ السلام نے میری طرف رخ کر کے کہا: ”اگر کسی کے پاس تیس یا چالیس ہزار درہم ہوں اور وہ خدا کے نام پر ساری دولت لٹا دے اور اپنے پاس کچھ نہ رکھے تو وہ ان تین افراد میں سے قرار پائے گا جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔“

راوی کتا ہے میں نے عرض کی: ”وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”ان میں سے ایک تو وہ ہے جو سارا مال راہ خدا میں صدقہ کر دے اور خالی ہاتھ ہونے کے بعد کہے کہ خدایا! مجھے رزق دے، تو اللہ کتا ہے: ”کیا میں نے تجھے رزق نہیں دیا تھا؟“

(جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ان کی تفصیل کتب ہذا کے آئندہ اوراق میں آپ پڑھیں گے)

فضول خرچ کون؟

ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام متوکل کے دربار میں تشریف لے گئے

اور اس کے پہلو میں ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔

متوکل آپ کے معامہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ عمامہ قیمتی تھا، متوکل نے کہا: ”آپ نے یہ دستار کتنے میں خریدی ہے؟“

امام علی نقی نے فرمایا: ”میں نے یہ دستار پانچ سو درہم نقرہ میں خریدی ہے۔“

متوکل نے کہا: ”پانچ سو درہم کی دستار خریدنا فضول خرچی ہے۔“

امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا: ”میں نے سنا ہے کہ تو نے چند دن قبل

ایک کثیر ہزار دینار زر سرخ کے بدلہ میں خریدی ہے؟“

متوکل نے کہا: ”جی ہاں! یہ درست ہے۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا ”میں نے پانچ سو درہم کا کپڑا اپنے بدن کے اعلیٰ

ترین حصہ کے لئے خریدا اور تو نے ایک ہزار دینار زر سرخ کی کینز اپنے بدن کے

اسفل ترین حصہ کے لئے خریدی اب بتاؤ ہم میں سے فضول خرچ کون

ہے؟“ (طائف الطوائف)

پانی کا ضیاع بھی اسراف ہے

حسن بھری ایک دن مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ

فرات کے کنارے جا رہا تھا۔ اسے پیاس محسوس ہوئی اس نے ایک برتن میں پانی

بھرا اور کچھ پانی پی کر باقی پانی زمین پر اٹھیل دیا۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ”تو نے پانی زمین پر اٹھیل کر اسراف کیا

ہے۔ تیرے لئے بھرا تھا کہ باقی پانی کو دریا کے پانی میں اٹھیل دیتا۔“

امیر المؤمنین کی یہ نصیحت سن کر حسن بھری کو غصہ آیا اور کہا: ”اگر میں

نے تھوڑی سی مقدار میں پانی انڈیا ہے تو آپ اسے فضول خرچی قرار دیتے ہیں

جب کہ آپ کی تلوار سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے کیا وہ اسراف نہیں

ہے؟“

علی علیہ السلام نے فرمایا ”جب تجھے بانہوں سے اتنی ہمدردی تھی تو تو

نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟“

حسن بھری نے کہا: ”میرا ارادہ تھا کہ میں تلوار لے کر آپ کے باغیوں

کی مدد کروں لیکن اس وقت میں نے ایک نیبی آواز سنی تھی کہ قاتل اور مقتول

دونوں دوزخی ہیں۔ اسی لئے میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا تھا۔“

امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا ”تو نے سچ کہا اور کیا تو جانتا ہے کہ وہ

آواز کس کی تھی؟“

حسن بھری نے کہا: ”نہیں۔“

امیر المؤمنین نے کہا: ”وہ ابلیس کی آواز تھی۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”ہر امت میں ایک سامری ہوتا ہے اور حسن بھری

اس امت کا سامری ہے۔“ (انوار نعمانیہ صفحہ ۲۲۶)

خوراک میں اسراف امراض کا سبب ہے

ایک نصرانی طبیب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: ”کیا آپ

کے پروردگار کی کتاب اور آپ کے پیغمبر کی سنت میں طب کا بھی ذکر موجود

ہے؟“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "ہمارے رب کی کتاب میں یہ آیت موجود ہے جس میں صحت کے رہنما اصول کا ذکر کیا گیا ہے "کلوا واشربوا ولا تسرفوا" کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔"

ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے: "العیة من الاکل راس کل دواء والا سراف فی الاکل راس کل داء" کھانے سے پرہیز ہر دوا کی جیاد اور کھانے میں اسراف ہر بیماری کی جیاد ہے۔"

نصرانی طبیب یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا: "واقعی تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت نے طب میں جالینوس کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔" (انوار نعمانیہ)

عبادت بھی ایمان کے مطابق ہونی چاہئے

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ "ایمان کے سات حصے ہیں، کسی کے پاس ایک حصہ، کسی کے پاس دو اور کسی کے پاس تین۔ علی ہذا القیاس کسی کے پاس سات حصے ہیں۔ اسی لئے ایک حصے والے شخص پر دو حصے والے کا بوجھ نہیں لادنا چاہئے اور جس کے پاس دو حصے ہیں اس پر تین حصوں والے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہئے۔"

آپ نے اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے یہ مثال دی:

"ایک شخص کا ایک ہمایہ نصرانی تھا۔ اس نے نصرانی کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی خصوصیات اس کے سامنے بیان کیں۔ نصرانی بلاآخر مسلمان ہو گیا۔"

دوسرے دن مسلمان اندھیرے حنہ نو مسلم نصرانی کے در پر گیا اور دستک دی۔ نصرانی نے دروازہ کھولا اور پوچھا: "کیا بات ہے؟"

مسلمان نے کہا کہ: "نماز کا وقت ہے وضو کرو اور مسجد چلو۔"

نو مسلم نے وضو کیا اور پرانے مسلمان کے ساتھ مسجد میں آیا۔ اس مسلمان نے نماز شب پڑھی، اس کی دیکھا دیکھی نو مسلم نے بھی نماز شب پڑھی۔ پھر نماز فجر کا وقت ہوا۔ دونوں نے نماز فجر پڑھی اور سورج نکلنے تک اس نے نو مسلم کو مسجد میں بٹھائے رکھا۔

سورج نکلنے ہی نو مسلم اٹھنے لگا تو مسلمان نے کہا کہ: "بھائی دن چھوٹے ہیں گھر جا کر کیا کر دے؟ بیٹھو کچھ دیر بعد ظہر کا وقت آجائے گا اور اس اثنا میں تم نوافل پڑھتے رہو۔"

نو مسلم بے چارہ ظہر تک مسجد میں بیٹھا رہا اور ظہر پڑھ کر نکلنے لگا تو اس پرانے مسلمان نے کہا "بھائی ظہر اور عصر کے درمیان فاصلہ ہی کتنا ہے۔ وہ بے چارہ بیٹھ گیا اور عصر کی نماز بھی ادا کی۔ اسی طرح سے نماز عشاء تک پرانے مسلمان نے نو مسلم کو مسجد میں بٹھائے رکھا۔ نماز عشاء کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کو گئے۔"

دوسری صبح مسلمان نے نو مسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ: "بھائی آؤ نماز پڑھنے چلیں۔"

نو نصرانی نے کہا: "بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم کسی نکتے شخص کو جا کر مسلمان بناؤ۔ ایسی مسلمان سے میں نصرانی بہتر ہوں۔"

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر وہ شخص نو مسلم پر زیادہ بوجھ نہ لادتا تو وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہوتا۔“

خدا کو میانہ روی پسند ہے

محمد بن حزمہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست ابو ہاشم جعفری کی وساطت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا جس میں میں نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تھی اور امام سے درخواست کی تھی کہ آپ میری تنگ دستی کے خاتمہ کے لئے دعا فرمائیں۔

چند دنوں بعد مجھے امام عالی مقام کا جواب موصول ہوا جس میں انہوں نے تحریر کیا تھا کہ: ”اللہ نے تیری تنگ دستی دور کر دی۔ تیرا چچا زاد بھائی یحییٰ بن حزمہ مر گیا ہے اور تجھے میراث کے طور پر ایک لاکھ درہم ملیں گے۔ اس پر اللہ کا شکر کر اور میانہ روی پر عمل کر اور اسراف سے پرہیز کر کیونکہ اسراف شیطانی عمل ہے۔“

چند دن بعد ایک شخص حران سے آیا اور مجھے اطلاع دی کہ تیرا بن عم فوت ہو گیا ہے اور اس کے ترکہ میں سے تیرا میراث کا حصہ ایک لاکھ درہم بنتا تھا جو کہ میں لے کر آیا ہوں۔

ایک لاکھ درہم ملنے کے بعد میں نے اس میں سے حقوق واجبہ لوا کئے اور اپنے دینی بھائیوں کی مدد کی اور پھر امام کے فرمان کے تحت میں نے تمام امور میں میانہ روی اختیار کی اور یوں میری زندگی بہتر ہو گئی۔ (خار الانوار جلد ۱۲

صفحہ ۱۶۷)

زندگی افراط و تفریط سے پاک ہونی چاہئے

امیر المؤمنین علیہ السلام علاء بن زیاد حارثی کی عیادت کے لئے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کے گھر کی وسعت ملاحظہ کی تو فرمایا: ”دنیا میں اتنا وسیع گھر لے کر تو کیا کرے گا جبکہ آخرت کے لئے ایسے گھر کی شدید ضرورت ہے؟ اگر تو چاہے کہ آخرت میں تجھے وسیع مکان ملے تو پھر مہمان نوازی کر، صلح رحم جالاور حقوق کی ادا چکی کر۔“

علاء بن زیاد نے اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کی کہ وہ رجبائیت کی طرف مائل ہو گیا ہے اور ترک دنیا کر چکا ہے۔

آپ نے حکم دیا کہ: ”اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔“

جب عاصم آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا: ”اپنی جان کے دشمن! تجھے شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ تجھے اپنے بیوی بچوں پر رحم نہیں آتا اور تو نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال و طیب بنائی ہیں اگر تو ان سے استفادہ کرے گا تو خدا کو ناکوار گزرے گا؟“

عاصم نے کہا: ”تو پھر آپ نے مونا لباس کیوں پہنا ہوا ہے اور ہمیشہ سادہ اور غیر لذیذ غذا کیوں کھاتے ہیں؟“

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: ”میں تجھ جیسا نہیں ہوں، اللہ نے حقیقی رہنماؤں کے لئے لازمی قرار دیا کہ وہ تنگ دست افراہ کی سی زندگی بسر کریں تاکہ ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر غریب لوگوں کو تسلی مل سکے۔“ (خار الانوار جلد ۱۵ قسمت دوم صفحہ ۵۳)

اس روایت میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے

دونوں بھائیوں کو ان کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ دولت مند شخص کو مالی حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا اور اسے اسراف سے منع کیا اور رہبانیت اختیار کرنے والے کو اس سخت زندگی کے چھوڑنے کا حکم دیا اور اسے طہیات سے مستفید ہونے کا حکم دیا۔

یہی اسلام اور قرآن کا سبق ہے۔ اسلام نہ تو ہمارے لئے پر تعیش زندگی کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی رہبانیت کی خشک زندگی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے۔

امام صادق اور صوفیاء کا مباحثہ

ایک دن سفیان ثوری اپنے ساتھ چند صوفیاء کو لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ امام نے انڈے کی طرح سفید لباس پہنا ہوا تھا۔

سفیان نے آپ کے لباس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: ”یہ لباس آپ کو زیب نہیں دیتا۔“

آپ نے فرمایا: ”سفیان جو کچھ میں کہوں اسے خود سے من اور اسے یاد رکھ میری باتیں دنیا و آخرت میں تیرے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر تو سنت پر مرنا چاہتا ہے اور بدعت سے چمنا چاہتا ہے تو میری باتوں کو خود سے من:

میرے والد علیہ السلام فرماتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس دور میں ہوئی جب کہ چاروں طرف غربت اور تنگ دستی کا دور دورہ تھا، اسی لئے انہوں نے بھی فاتحے کئے، اگر اللہ تنگ دستی دور کر کے فراخی عطا

فرمائے تو اہل ایمان کو اس سے استفادہ کرنا چاہئے۔ انعامات خداوندی کو فاسقین کے لئے مخصوص نہ کرنا چاہئے۔ تیرا اعتراض اس وقت صحیح ہوتا اگر میں حق داروں کے حقوق ضائع کر دیتا اور اپنے آپ کو خوش گزرانی میں مصروف کر دیتا۔ خدا کی قسم شام ہونے سے پہلے تمام حق داروں کو ان کے حقوق مل جاتے ہیں۔“

پھر آپ نے اپنا قمیض ہٹا کر دکھایا تو نیچے آپ نے کھر در لباس پہنا ہوا تھا اور فرمایا ”سفیان دیکھ! اوپر والا لباس میں نے لوگوں کے لئے پہنا ہوا ہے اور اپنے نفس کے لئے میں نے کھر در لباس پہنا ہوا ہے۔“

پھر آپ نے سفیان کو حکم دیا کہ وہ قمیض ہٹا کر دکھائے تو سفیان معذرت کرنے لگا۔ آپ نے سفیان کی قمیض ہٹا کر دیکھی تو اس نے اندر حریر و اطلس کا لباس پہنا ہوا تھا۔

آپ نے فرمایا: ”سفیان تم پر افسوس! تم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے کھر در لباس پہنا ہوا ہے اور اپنے نفس کو آرام دینے کے لئے حریر و اطلس کا لباس پہنا ہوا ہے۔“

اس گفتگو سے سفیان ثوری سخت شرمندہ ہوا اور اسے مزید گفتگو کا یارا نہ رہا۔

سفیان کے ساتھیوں میں سے دو ساتھی آگے بڑھے اور عرض کی: ”اگر سفیان کے پاس دلائل نہیں تھے تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا موقف کمزور ہے۔ ہم اپنے موقف کی تائید کے لئے قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کا کردار بیان کرتے ہوئے ارشاد

فرمایا۔ "ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک ہم المفلحون" وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے اور جنہوں نے اپنے نفس کو ظل سے بچا لیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔"

اس کے علاوہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا کردار بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویسیرا واسیرا" وہ کھانے کی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمارے موقف کی تائید کے لئے یہی دو آیات کافی ہیں۔"

حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا: "لذیذ طعام سے تم خود بھی متنفر نہیں ہو، دراصل یہ تمہارا طریقہ واردات ہے کہ لوگوں کو لذیذ کھانوں سے روک کر تم ان کی دولت سے مستفید ہونا چاہتے ہو۔"

لام علیہ السلام نے فرمایا: "بے فائدہ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔"

پھر آپ نے ان صوفیاء کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا: "کیا تم قرآن حکیم کے ناخ و منسوخ، محکم و متشبه سے واقف ہو؟ کیونکہ جو بھی گمراہ ہو وہ اس وجہ سے ہوا کہ اسے ان باتوں کا علم نہیں تھا۔"

صوفیاء نے کہا: "ہمیں تمام ناخ و منسوخ، محکم و متشبه کا علم نہیں ہے۔" یہ سن کر آپ نے فرمایا: "پھر یہی وجہ ہے کہ ہمیں مغالطہ ہوا ہے۔ اس زمانہ میں اس امر کی ترغیب دی گئی تھی کہ انسان دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے اور اپنا طعام اٹھا کر دوسروں کو کھلا دے۔ مگر یہ حکم ہمیشہ اور ہر وقت کے لئے

نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہمارے پاس ایک روٹی ہو اور ہم وہ بھی کسی اور کو کھلا دیں تو ہم خود بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔"

اسی لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "اگر انسان کے پاس خرما کے پانچ دانے یا روٹی یا درہم و دینار ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو دے۔ پھر دوسرے مرحلے میں خود کھائے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلائے اور تیسرے مرحلے میں اپنے رشتہ داروں کو کھلائے اور پوتھے مرحلے میں اپنے مسیروں کو کھلائے اور پانچویں مرحلے میں راہ خدا میں کسی غریب کو کھلائے لیکن یہ اتفاق کا آخری درجہ ہے۔"

ایک انصاری کے پاس پانچ یا چھ غلام تھے وہ ان کی سمانی سے مستفید ہوتا تھا۔ مرنے سے قبل اس نے سب کو آزاد کر دیا جبکہ اس کے چھ چھوٹے تھے اور کمانی کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی موجود نہیں تھا۔

جب رسول خدا کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا: "اگر تم لوگوں نے مجھے اس کے متعلق پہلے بتایا ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ اس نے چھوٹے بچوں کو لوگوں کے آگے سوالی بننے کے لئے چھوڑ دیا اور غلام آزاد کر لیا۔"

اللہ تعالیٰ نے تمہارے موقف کی تردید کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا "والدین اذا انفقا لہم یسر فوا ولہم یقتروا وکان بین ذلک قواما" اور جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کج سوس بھی نہیں کرتے وہ درمیانی راہ پر عمل کرتے ہیں۔ جبکہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنا

تمام مال اٹھا کر دوسروں کے حوالے کر دے، اللہ اسے اسراف کہتا ہے اور اللہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف اور کنجوسی دونوں کو ناپسند کرتا ہے اور درمیانی راہ پر چلنے کی تلقین فرماتا ہے۔

جو شخص اپنا سارا مال لٹا دے اور پھر اللہ سے رزق طلب کرے تو وہ ان لوگوں میں سے قرار پاتا ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میری امت کے چند گروہ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی:

- ۱۔ جو اپنے والدین کے لئے بددعا کرے۔
- ۲۔ جو کسی کو قرض دے مگر نہ تو اس سے تحریر لے اور نہ ہی گواہ مقرر کرے اگر مقرض انکار کر دے اور قرض خواہ اس کے خلاف بددعا کرے تو اس کی بددعا قبول نہیں ہوتی۔
- ۳۔ جو شخص اپنی بیوی کو بددعا کرے۔ جب کہ اللہ نے طلاق کا حق اسے تفویض کیا ہے۔
- ۴۔ جو شخص اپنے گھر بیٹھ جائے اور اللہ سے رزق کا سوال کرے تو اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے ہاتھ پاؤں نہیں دیئے ہیں؟ گھر سے باہر نکل کر کوئی کام کر تا کہ میرا رزق تجھے مل سکے۔
- ۵۔ جسے اللہ نے رزق دیا لیکن اس نے سارا رزق خرچ کر دیا اور پھر اللہ سے رزق کی دعا مانگے تو اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے رزق دیا تھا لیکن تو نے اسراف کیا تو کیا میں نے اسراف سے روکا نہیں تھا؟

۶۔ وہ شخص جو قطع رحم کے لئے دعا کرے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں اتفاق کا درس دیا ہے۔

ایک مرتبہ آپ کے پاس تھوڑا سا سونا تھا آپ نے شام سے پہلے تقسیم کر دیا۔ صبح کے وقت آپ کے پاس ایک سائل آیا تو آپ نے کچھ عطا کرنے سے محذرت کی تو سائل نے آپ کو مرزئش کی۔

آپ سائل کو کچھ نہ دینے کی وجہ سے غمگین ہوئے کیونکہ آپ انتہائی شفیق اور رقیق القلب تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تادیب فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی: ”ولا نجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فقعد ملوما محسورا“ اپنے ہاتھ کو گردن سے مت باندھو اور نہ ہی اسے کھل کھلا چھوڑو ایسا نہ ہو کہ تم ملامت زدہ اور پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ۔“

علاوہ ازیں پیغمبر اسلام کی احادیث بھی اس سلسلہ میں بھرت دارو ہیں۔ جن کی تائید قرآن کرتا ہے اور اہل ایمان قرآن کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔

حضرت سلمان اور حضرت ابوذر صحابہ میں ممتاز مقام کے حامل تھے۔ جب سلمان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تو وہ پورے سال کی گندم خرید کر اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ: ”تمہیں پورے سال کی گندم ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کہ ممکن ہے تم پورا سال زندہ نہ رہو؟“

حضرت سلمان نے فرمایا: ”کیا ضروری ہے کہ میں جلد ہی مردوں آخر تم لوگ میری زندگی کا کیوں نہیں سوچتے یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں زندہ رہ

جاؤ۔“

جب انسان کے گھر میں کھانے کا سامان نہ ہو تو نفس سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اگر گھر میں کھانے کا سامان موجود ہو تو نفس انسانی آسودگی محسوس کرتا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ کے پاس بھی بہت سی بھیڑیں اور چند لونٹ موجود تھے۔ آپ ان کا دودھ دہا کرتے تھے اور خود بھی پیتے اور خاندان کو پلاتے، جب ان کا خاندان ان سے گوشت کا تقاضا کرتا تو وہ بھیڑ ذبح کر کے اپنے بیوی بچوں کو گوشت کھلاتے۔

ابو ذرؓ جب ملاحظہ کرتے کہ قحط سالی نے معاشرہ کو اپنی پیٹ میں لے لیا ہے تو وہ اپنے اونٹوں میں سے لونٹ ذبح کر کے ہمسایوں میں تقسیم کرتے تھے اور خود اپنے لئے ایک ٹھنڈے حصہ برابر گوشت اٹھاتے تھے۔

ابتداءً اسلام میں لوگوں کو زیادہ محنت و مشقت کے لئے تیار کیا گیا تھا لیکن اللہ نے پھر ان کی کمزوری پر رحم فرمایا اور ان سے سختی کو دور کیا، اس حقیقت کی وضاحت کے لئے جہاد کی آیت موجود ہیں جن میں پہلے حکم دیا گیا تھا کہ ایک مؤمن دس کافروں سے جہاد کرے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری پر رحم کیا اور حکم دیا کہ ایک مؤمن دو کافروں سے جہاد کرے۔

اور اگر بالفرض تمہارا یہ نظریہ تسلیم کر لیا جائے کہ آدمی اپنے گھر میں کچھ نہ رکھے۔ سارا مال لوگوں میں لٹا دے تو اس صورت میں قسم کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ نذر پر عمل کیسے ہو؟ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے؟ حج بیت اللہ کی استطاعت کیسے پیدا ہو؟

تمہارے تمام تر مغالطہ کی وجہ نابخ و منسوخ، محکم و متشابہ سے تمہاری عدم واقفیت ہے۔

پھر آپ نے ان صوفیاء کو حضرت سلیمان، داؤد، ذوالقرنین، یوسفؑ کی حکمرانی کی مثالیں دیں۔

آخر میں انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ”تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے لئے اہل علم سے رجوع کرو۔“

چند روایات

عن علی لا یدرق المرء حقیقة الایمان حتی یکون فیہ ثلاث خصال الفقه فی الدین والصبر علی المصائب وحسن التقدیر فی المعیشتہ وقال ایضا ترک التقدیر فی المعیشتہ یورث الفقر.

”حدیث الانوار جلد ۱۵ قسمت دوم صفحہ ۱۹۹“

علی علیہ السلام نے فرمایا: ”انسان کو اس وقت تک حقیقت ایمان کا ذائقہ معلوم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تین عادات نہ ہوں:

(۱) دینی ضرورت کے مسائل سے آگاہی

(۲) مصائب میں صبر

(۳) خارج زندگی میں میانہ روی۔“

آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: ”زندگی کی اخراجات کے لئے میانہ روی کو ترک کرنا غرمت و سنگدستی کا باعث ہے۔“ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے: ”معال من اقتصد“ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہ ہوگا۔“

عن ايوب بن الحر قال سمعت رجلا يقول لابي عبدالله بلغني ان الاقتصاد والتدبير في المعيشة نصف الكسب فقال ابو عبدالله لا بل هو الكسب كله ومن الدين التدبير في المعيشة.

”حدود الاثوار جلد ۱۵ قسمت دوم صفحہ ۱۹۹“

ايوب بن حر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ: ”میانہ روی اور تدبیر آدمی کمائی ہے۔“
آپ نے فرمایا ”نہیں مکمل کمائی ہے اور کیفیت زندگی کے لئے سوچنا دین کا حصہ ہے۔“

عن بشر بن مروان قال دخلنا على ابي عبدالله فدعا برطب فاقبل بعضهم يرمي بالنوى قال وامسك ابو عبدالله يده فقال لا تفعل ان هذا من التبذير والله لا يحب الفساد. و في رواية ايضا قال السرف في ثلاث ابتذالك ثوب صونك والقالك النوى يمينا و شمالا و اوراقك فصلة الماء و قال ليس في الطعام سرف.

”حوالہ مندرجہ بالا روایات“

بشر بن مروان کہتا ہے ہم امام جعفر صادق کے پاس گئے، آپ نے ہمارے لئے کھجوریں منگائیں تو ہم میں سے کچھ آدمیوں نے ادھر ادھر گھٹتیاں پھینکیں تو آپ نے اپنا ہاتھ روک کر فرمایا: ”ایسا مت کرو، یہ اسراف ہے اور اللہ کسی چیز کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔“

ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا: ”اسراف تین چیزوں میں ہے:

۱۔ کام کے وقت اپنا بہترین لباس پہننا

۲۔ گھٹیوں کو دائیں بائیں پھینکنا

۳۔ قال لوطیانی پھینک دینا اور آپ نے فرمایا: ”خوراک میں اسراف نہیں ہے۔“

عن اباہ بن تغلب قال: قال ابو عبدالله اتري الله اعطى من اعطى من كرامته عليه رفع من مع من هو ان به عليه لا ولكن المال مال الله يصعه عند الرجل ودائع و حور لهم ان ياكلوا قصد او يشربوا قصد او يلبسوا قصد او ينكحوا قصدا ويركوا قصدا ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموبه شعنتهم فمن فعل ذلك كان ما ياكل حلالا ويشرب حلالا ويركب ويسكح حلالا ومن عدا ذلك كان عليه حراما ثم قال لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اتري الله اتتم الرجل على مال خول له ان يشتري فرسا بعشرة الاف درهم ويجزيه فرس بعشرين درهما ويشترى جارية بالف دينار ويجزيه بعشرين دينار او قال لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.

”حدود جلد ۱۵ قسمت دوم صفحہ ۲۰۱“

ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اس کی اللہ کے نزدیک کوئی منزلت ہے اور جسے اللہ نے غربت و تنگدستی دی ہے وہ خدا کے ہاں ذلیل ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مال و دولت خدا کی ملکیت ہے اللہ نے بعض لوگوں کو اس کا امین بنایا ہے اور پھر اس نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ میانہ روی سے کھائیں، پیئیں، لباس پہنیں اور نکاح کریں اور سواروں پر سوار ہوں ان جائز اخراجات سے جو چاہئے تو غریب مؤمنین کی اس سے مدد کریں ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ جس نے ایسا کیا تو اس کا کھانا پینا، سواری اور شادی اس کے لئے حلال ہے۔ جس نے اس پر عمل نہ کیا تو اس کے لئے سب کچھ حرام ہے۔“

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ”اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“

یہ کہاں تک درست ہے کہ اللہ ایک شخص کو مال و دولت کا امین بنائے اور وہ دس ہزار درہم کا گھوڑا خریدے جب کہ اس کے لئے بس درہم کا گھوڑا بھی کفایت کر سکتا ہے اور ہزار دینار کی ایک کینز خریدے جبکہ بس دینار کی کینز سے اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ قرآن مجید کی وہی آیت تلاوت فرمائی ”اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“

باب دہم

مذمتِ حُبِ دنیا

﴿﴾ چیونٹی نے حضرت سلیمان سے کیا کہا؟ ﴿﴾

داؤد بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت ”فتبسم ضاحکا من قولها“ ”سلیمان چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:

”حضرت سلیمان بن داؤد کا تخت ہواؤں کے دوش پر پرواز کر رہا تھا تو اس وقت ایک چیونٹی نے آواز دے کر کہا: ”یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لایحطمنکم سلیمان و جنودہ“ اے چیونٹیو! اپنے بلوں میں چل جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال کر دے۔“

ہو انے چیونٹی کی گفتگو حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچائی، آپ نے اسی وقت فضا میں توقف کیا اور فرمایا: ”اس چیونٹی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔“

جب چیونٹی حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا: ”کیا تجھے یہ علم نہیں ہے کہ میں نبی ہوں اور نبی کسی پر ناحق ظلم نہیں کرتے؟“

چیونٹی نے کہا: ”مجھے علم ہے کہ آپ نبی ہیں۔“

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: ”پھر تو نے اپنی قوم کو خواہ مخواہ کیوں ڈر لیا اور انہیں بلوں میں جانے کی ہدایت کیوں کی؟“

چیونٹی نے کہا: ”مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میری قوم آپ کی عظمت و شوکت دیکھ کر آرائش و دنیا پر فریفتہ نہ ہو جائے اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے لگ جائے۔“

پھر چیونٹی نے حضرت سلیمان سے پوچھا: ”کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ نے ہوا کو آپ کے لئے کیوں مسخر کیا؟“

حضرت سلیمان نے کہا: ”مجھے علم نہیں ہے۔“

چیونٹی نے کہا: ”خدا نے ہوا کو اس لئے مسخر کیا تاکہ آپ کو یہ پیغام دیا جاسکے کہ حکومت و سلطنت پر کبھی ناز نہ کرنا یہ تو ہوا کی طرح سے آتی جاتی چیز ہے۔“

اسی لئے حضرت سلیمان اس کی بات سن کر مسکرائے تھے۔“ (حار الا انوار جلد ۱۳ صفحہ ۹۳ نقل از عیون اخبار الرضا)

عظیم مقدر کی عجیب موت

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عظیم سلطنت عطا کی ہے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہوگی۔ اللہ نے میرے ہاتھوں میں ہواؤں، جنات انسانوں اور پرندوں کو مسخر کیا ہے اور مجھے پرندوں کی زبان تعلیم فرمائی ہے، اس کے باوجود میں نے پورا ایک دن کبھی سکون سے بسر نہیں کیا۔ اسی لئے میری

خواہش ہے کہ کل کا پورا دن کوئی مجھے ملنے نہ آئے میں اپنے محل پر چڑھ کر اپنی سلطنت کا نظارہ کروں گا۔“

صبح ہوئی حضرت سلیمان اپنے عصا کو ہاتھ میں لے کر محل پر آگئے اور خوش ہو کر اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک خوش لباس اور خوبصورت جوان کو محل کے ایک گوشہ میں دیکھا تو اس سے پوچھا ”تو کس کی اجازت سے اس محل میں داخل ہوا؟“

جوان نے کہا: ”میں محل کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔“
حضرت سلیمان نے کہا: ”بے شک اس محل کا مالک (خدا) میری نسبت تجھے اجازت دینے کا زیادہ اہل ہے۔“

پھر حضرت سلیمان نے پوچھا: ”کیوں آئے ہو؟“

جوان نے کہا: ”میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔“

حضرت سلیمان نے کہا: ”تم اپنا فرض ادا کرو میں آج کے دن کو خوشی اور مسرت سے گزارنا چاہتا تھا لیکن میرے خدا نے چاہا کہ میں ملاقات خدا سے لطف حاصل کروں۔“

حضرت سلیمان نے عصا کا سہارا لیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی موت کے بعد بھی سلیمان اسی عصا کا سہارا لئے اپنے محل پر کھڑے رہے۔ لوگ سلیمان کو کھڑا دیکھ کر کہتے کہ سلیمان زندہ ہیں۔

چند دنوں کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا کچھ لوگوں نے کہا: ”سلیمان کافی دن سے ایک ہی جگہ کھڑے ہیں نہ وہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں، ہونہ ہو یعنی ہمارے خدا ہیں۔“

ایک گروہ نے کہا: ”سلیمان (نعوذ باللہ) جاوگر ہیں۔“

مؤمنین کی جماعت نے کہا: ”سلیمان خدا کے بعدے اور اس کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لئے جو مناسب سمجھے گا فیصلہ کرے گا۔“

پھر خداوند عالم نے ان کے عصا پر دیمک کو مسلط کر دیا۔ وہ عصا کو چاٹتی رہی جب عصا کا اندرونی حصہ خالی ہوا تو حضرت سلیمان محل کی چھت سے زمین پر آگرے۔ حضرت سلیمان کے گرنے کے بعد جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس دن سے لے کر آج تک قوم جنات دیمک کے ممنون احسان چلی آتی ہے۔ جہاں بھی دیمک ہوگی قوم جنات اسے پانی پہنچائے گی۔

خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو ان الفاظ سے بیان فرمایا: ”فلما قفینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابة الارض تاکل منساہ فلما خرّ بینت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب مالثوا فی العذاب المہین“ جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو انسانوں اور جنوں کو زمین کے ایک کیزے نے اطلاع پہنچائی جو ان کے عصا کو کھاتا رہا، جب سلیمان گرے تو جنوں کو معلوم ہوا، اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو رسوا کرنے والے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔“ (حدیث الانوار جلد ۱۳ صفحہ ۱۳۶)

خاندان برائے کی ابتدائی حالت

حسن بن سل کتا ہے کہ میں ایک دن یحییٰ بن خالد برکی کے پاس گیا تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس دوران میں لوگ اس کے پاس اپنی درخواستیں

لے کر آتے رہے اور وہ ان پر احکام جاری کرتا رہا۔

احمد بن ابی خالد احوال بھی ایک درخواست لے کر آیا۔ یحییٰ نے اس کی درخواست پر مناسب احکام جاری کئے اور اپنے بیٹے فضل سے کہا: ”میری اور اس جوان کے باپ کی ایک پر لطف داستان ہے، جب میں فارغ ہو جاؤں تو تم مجھے یاد دلانا، میں تمہیں وہ خوبصورت واقعہ سنائوں گا۔“

جب یحییٰ بن خالد برکی حکومتی امور سے فارغ ہوا تو فضل نے اسے یاد دہانی کرائی تو یحییٰ نے کہا: ”اے فرزند! جب ممدی عباسی کے دور حکومت میں اپنے خاندان کو لے کر میں بغداد آیا تھا تو اس وقت میں سخت فقر و تنگدستی میں مبتلا تھا۔ ایک دن مجھے میرے اہل خانہ نے بتایا کہ ہم نے تین دن سے بچھ نہیں کھایا اور شرم کے مارے ہم نے آپ کو بھی نہیں بتایا۔

یہ سنتے ہی میں بواپریشان ہوا کہ میں اہل خانہ کی بھوک مٹانے کا سامان کہاں سے پیدا کروں؟

میرے ذہن میں ایک نئے تولیہ کا خیال آیا اور پوچھا کہ گھر میں ایک نیا تولیہ تھا۔ اگر موجود ہو تو مجھے دے دو۔

گھر والوں نے مجھے تولیہ دیا میں نے سترہ درہم میں وہ تولیہ فروخت کیا اور اس سے خورد و نوش کا معمولی سا سامان خریدا۔

دوسرے دن میں اسی جوان کے والد کے دروازے پر گیا وہ اس وقت وزیر تھا اور میراث سا تھا۔ جب میں وزیر کے دروازے پر پہنچا تو پہلے ہی وہاں ایک ہجوم جمع تھا۔ بلاآخر وزیر گھوڑے پر سوار ہو کر دروازہ پر پہنچا مجھے دیکھ کر پوچھا کہ: ”تم کیسے ہو؟“

میں نے کہا: ”آپ میرا حال پوچھ کر کیا کریں گے؟ میری حالت یہ ہے کہ میں نے سترہ درہم کا تولیہ بچ کر کھانا کھایا ہے۔“

میری بات سن کر وزیر نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ میں گھر آیا اور اپنے خاندان والوں کو اس دن کی پتاسنائی۔ میرے خاندان کے افراد نے کہا: ”تو نے اپنی غربت کا اظہار کر کے اچھا نہیں کیا۔ تو وزیر کی نگاہوں سے گر گیا ہے وہ آئندہ تجھ سے مراسم نہیں رکھے گا۔“

دوسرے دن میں خلیفہ کے دربار میں گیا، وہاں ایک شخص نے کہا: ”وزیر نے تمہارے متعلق پوچھا ہے اور میری یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ میں تمہیں جہاں دیکھوں وزیر کے پاس لے جاؤں۔ اب کچھ دیر تم یہاں ٹھہرو میں تمہیں لے جاؤں گا۔“

چنانچہ کچھ دیر بعد وہ شخص میرے لئے ایک گھوڑا لے آیا، میں اس پر سوار ہو کر وزیر کے پاس گیا۔ وزیر نے نوکر کو کہہ کر چند افراد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا ”میں نے تمہارے ہاتھ غلہ فروخت کیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ اس غلہ میں ایک شخص میری طرف سے تمہارا شریک ہوگا۔ اسے دیکھو یہ شخص تمہارا شریک ہے۔“

پھر وزیر نے کہا: ”اب تم ان کے ساتھ جاؤ۔“

میں ان تاجروں کے ہمراہ باہر آیا تو انہوں نے کہا: ”بھائی تو ہمارا شریک ہے لیکن تجھے بہت سے ملازمین اور سواروں کی ضرورت پڑے گی اگر تو ہمارے کہنے پر عمل کرے تو ہر مصیبت سے تو آزاد ہوگا۔ ہم تجھ سے تیرا حصہ خریدنا چاہتے ہیں۔“

میں نے کہا ”بہتر ہے لیکن تم مجھے میرے حصہ کی کتنی رقم دو گے؟“

تاجروں نے کہا: ”ہم تجھے ایک لاکھ درہم دیں گے۔“

میں نے کہا: ”نہیں، یہ تو تھوڑی ہے۔“

آخر کار تاجروں نے مجھے تین لاکھ درہم کی پیش کش کی جو میں نے قبول

کری اور کہا: ”شرط یہ ہے کہ رقم کی ادائیگی وزیر کی موجودگی میں ہوگی۔“

میں وزیر کے پاس آیا اور اسے کہا: ”مجھے تین لاکھ درہم مل رہے ہیں آپ

کا کیا خیال ہے؟“

وزیر نے کہا: ”بہتر ہے۔“ پھر وزیر نے انہیں بلا کر رقم لانے کا حکم دیا۔

تاجروں نے مجھے تین لاکھ درہم دیئے۔

وزیر نے تمام رقم میرے حوالے کی اور کہا: ”جاؤ اس سے گھر کا نان و نفقہ

چلاؤ۔ میں عنقریب تمہیں دربار میں بھی کوئی عمدہ دلائل گا۔“

چند دنوں بعد وزیر کی سفارش سے مجھے عمدہ ملا اور میں اپنی صلاحیت اور

قابلیت سے آج اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں تم مجھے اس وقت دیکھ رہے ہو۔

(ثمرات الاوراق ابن چہ حوی)

براکہ کی خلفاء پر حکمرانی

عبدالملک بن صالح ہاشمی نے خلافت کی آرزو کی تھی جس کی وجہ سے

ہارون الرشید اس پر ناراض ہو گیا تھا۔ ایک رات وہی عبدالملک جو کہ ہارون کے

ذیر عتاب تھا، جعفر برکی کے دربار میں حاضر ہوا۔ جعفر برکی نے پوچھا: ”تمہیں

کوئی کام ہے؟“

عبدالملک بن صالح ہاشمی نے کہا: "بارون الرشید مجھ سے ناراض ہے، آپ کسی طرح سے اسے مجھ سے راضی کر دیں۔"

جعفر نے کہا: "بارون کے دل میں جو ناراضگی تھی وہ دور ہو گئی ہے۔"

عبدالملک نے کہا: "میں چار لاکھ درہم کا مقروض ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قرض سے آزاد ہو جاؤں۔"

جعفر نے کہا: "اگر چاہوں تو میں تمہارا قرض ادا کر سکتا ہوں لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہارا قرض بارون کی رقم سے ادا ہو۔ کل تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔"

عبدالملک نے کہا: "میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے ابراہیم کی شادی بارون کی کسی بیٹی سے ہو جائے۔"

جعفر برکتی نے کہا: "بارون نے اپنی دختر عالیہ کی تیرے بیٹے ابراہیم سے شادی کر دی۔"

عبدالملک نے کہا: "میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو کسی علاقہ کا والی بنایا جائے۔"

جعفر برکتی نے کہا: "بارون نے اسے مصر کی حکومت عطا کی۔"

عبدالملک یہ سن کر جعفر برکتی کے دربار سے خوش ہو کر واپس چلا گیا۔

حاضرین میں سے بہت سے لوگوں نے جعفر کے اس اقدام پر تعجب کیا اور انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ بارون اس جسارت پر ناراض ہو گا۔ لیکن بارون نے جعفر کی تمام باتوں پر حرف برف عمل کیا۔

ایک دن بارون اور عبدالملک شکار کے لئے گئے تو بارون نے عبدالملک کو

ساتھ لایا اور لشکر سے کافی فاصلہ پر اس سے کہا: "جعفر نے میری اجازت کے بغیر تیرے متعلق چار باتوں کا فیصلہ کیا، اب تو مجھے بتا کیا اسے یہ بات زیب دیتی تھی؟"

عبدالملک نے کہا: "اصل بات یہ ہے کہ آپ کے احسانات نے اسے یہ جسارت و جرأت بخشی ہے۔"

بارون الرشید نے کہا: "حقیقت پر پردہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں تو مجھے سچ سچ بتا کہ اجازت کے بغیر اتنے بڑے اقدام کو تم کس نظر سے دیکھتے ہو؟"

یہ سن کر عبدالملک خاموش ہو گیا اور اس نے دل میں سمجھ لیا کہ بارون کے دل میں غلط پیدا ہو چکی ہے۔ اس واقعہ سے ایک سال بعد بارون نے خاندان برآمدہ کو تہ تیغ کر دیا۔ (محممہ المنتہی)

تصویر انقلاب

محمد بن عبدالرحمن ہاشمی کتا ہے کہ عید کے دن میں اپنی ماں کے پاس گیا تو ایک بوزخمی عورت کو اپنی ماں کے پاس دیکھا جس نے بہت ہی پرانا اور میلا لباس پہنا ہوا تھا۔

میری ماں نے کہا: "اس عورت کو جانتے ہو؟"

میں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو میری ماں نے کہا: "یہ عورت انقلاب زمانہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ جعفر برکتی کی ماں عبادہ ہے۔"

میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی اور پھر پوچھا: "آپ نے حواشی روزگار کو کیسا پایا؟"

جعفر برکی کی ماں نے کہا: ”بیٹا آج عید کا دن ہے۔ جب ہمارا اقتدار تھا اور ہمارا تخت بام عروج پر تھا تو عید کے دن میری خدمت کے لئے چار سو کنیزیں موجود ہوتی تھیں لیکن میں پھر بھی اپنے بیٹے جعفر پر ناراض ہوتی تھی کہ اس نے میری خدمت کے لئے اتنی اور کنیزیں کیوں نہیں بھیجیں؟ اور پھر ہمارا تخت ڈھل گیا آج بھی عید کا دن ہے اور آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ مجھے کہیں سے دو کھالیں مل جائیں ایک کھال نیچے بچھاؤں اور ایک کھال کولف کے طور پر استعمال کر سکوں۔“

محمد (روای) کہتا ہے کہ میں نے اسے پانچ سو درہم دیئے تو وہ بے چاری اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اس کی موت کا خوف محسوس ہونے لگا۔

کبھی کبھی وہ بڑھیا ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور ہم اس کی مدد کیا کرتے تھے۔

ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ بڑھیا دنیا کے تمام غموں سے آزاد ہو گئی ہے۔ اور ہزاروں من مٹی میں مدفون ہو چکی ہے۔ (انکلام بجز الکلام نقل از لئن خلکان)

صفحات تاریخ پر برآمدہ کی آخری نشانی

محمد بن زید دمشقی کہتا ہے کہ ایک رات فضل برکی نے مجھے اپنے دربار میں بلایا، جب میں وہاں پہنچا تو ایک مجلس آرامت تھی۔

فضل برکی نے کہا: ”مجھے خدا نے بیٹا عطا کیا ہے بہت سے شعراء نے تہنیتی اشعار کہے ہیں لیکن مجھے ابھی تک ان کا ایک شعر بھی پسند نہیں آیا۔ تجھے

اس لئے بلایا ہے کہ تو اس وقت ہمیں کوئی اچھا سا شعر مناد۔“ میں نے کہا: ”اس وقت طبیعت حاضر نہیں ہے کسی اور وقت خوبصورت شعر سنائوں گا۔“

فضل نے بے حد اصرار کیا تو میں نے اس وقت فی البدیہہ ایک نظم پڑھی جس کا ایک مصرعہ یہ تھا:

ونفوح بالمولود من الہرمک
ولا مینما اذکان من ولا الفضل

آل ہرمک کے نومولود کی پیدائش پر ہم خوش ہوتے ہیں، خاص کر جب وہ فضل کا بیٹا ہو۔

فضل نے اس شعر پر خوش ہو کر مجھے دس ہزار دینار انعام دیا۔ جس سے میری مالی حالت درست ہوئی اور پھر اس رقم کو سرمایہ بنا کر میں نے تجارت شروع کی۔ چند سالوں میں میری دولت لاکھوں تک پہنچ گئی۔

میں اکثر اوقات اس واقعہ کو یاد کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی تنہائی کے لمحوں میں وہ شعر بھی گنگناتا تھا۔

زمانہ نے کروت بدلی تو پورا ماحول بدل گیا۔ آل ہرمک پر ہارون کا عتاب نازل ہوا اور اس نے اس خاندان کے تمام قابل ذکر افراد کو = تیغ کر دیا۔ میں زمانہ کی نیرنگی پر بہت رویدا۔ برآمدہ کے سقوط کو کئی سال گزر گئے۔ میں نہانے کے لئے ایک حمام میں گیا اور میں نے حمام والے سے درخواست کی کہ میری مالش کے لئے وہ کسی ملازم کو بھیجے۔

ایک خوبصورت لڑکا میری مالش کے لئے آیا۔ اس نے میری مالش شروع

کی، اچانک مجھے گذرا ہوا زمانہ یاد آگیا اور میں نے وہی شعر گنگنا شروع کیا جو میں نے فضل برکی کے بیٹے کی پیدائش پر کہا تھا۔

مالش کرنے والے لڑکے کو خدا جانے کیا ہوا وہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ میں نے حمام کے مالک سے گھر کیا کہ تم نے کیا مریض لڑکا ملازم رکھا ہے جو گاہک کو مالش کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے۔

حمام کے مالک نے کہا: ”یہ لڑکا چند ماہ سے ہمارے حمام میں ملازمت کر رہا ہے آج تک یہ کبھی بے ہوش نہیں ہوا۔“

بہر نوع لڑکا ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا ”تو ایک دم کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟“

لڑکے نے کہا: ”کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے اور کس کے لئے پڑھا گیا ہے؟“

میں نے کہا: ”جی ہاں! یہ شعر میرا ہے اور میں نے فضل برکی کے بیٹے کی جشنِ تنہیت پر اسے پڑھا تھا۔“

لڑکے نے کہا: ”کیا تمہیں علم ہے کہ فضل کا پینا اس وقت کہاں ہے؟“ میں نے کہا: ”نہیں! میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔“

لڑکے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا: ”وہ بد نصیب میں ہوں جس کی پیدائش پر تم نے یہ شعر پڑھے تھے۔ پھر اس نے اپنے حالاتِ زندگی سنائے۔“

میں نے کہا: ”اے فرزند! تمہارے باپ کی عطا کردہ دولت سے اللہ نے مجھے غنی بنایا ہے اور خدا نے مجھے کوئی پینا نہیں دیا۔ لہذا تم میرے ساتھ چلو میری تمام دولت تمہارے لئے حاضر ہے۔“

لڑکے نے کہا: ”نہیں! میرے باپ دلوانے آپ کو اگر انعام دیا تھا تو میں اسے واپس نہیں لینا چاہتا۔ اگر آج میرے پاس بھی کچھ دولت ہوتی تو میں بھی آپ کو ضرور دیتا اور ویسے بھی میں گناہی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے اگر میں منظر عام پر آگیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس دن کے بعد وہ لڑکا مجھے اس حمام میں دوبارہ نظر نہ آیا۔“

لمحہء فکر یہ

تاریخِ حیرہ کے صفحہ ۱۳۸ پر ہارون الرشید کے ایک منشی کا بیان ہے کہ میں سالانہ اخراجات کی تفصیل دیکھ کر کل اخراجات کا حساب بنایا کرتا تھا۔ میں نے ایک رجسٹر میں ابو الفضل جعفر بن یحییٰ برکی کی عید کا خرچ لکھا ہوا دیکھا اس میں صرف عطر کا خرچہ پچاس ہزار درہم تھا۔ اس کے لباس وغیرہ کا خرچ ملحدہ درج تھا اور پھر اسی سال کے رجسٹر پر میں نے دیکھا کہ جعفر برکی کی لاش کو جلانے کے لئے جو تیل اور یوریا خرید گیا تھا اس کا بھی حساب درج تھا۔ اس کی لاش کو ٹھکانہ لگانے کا خرچہ پونے پانچ درہم لکھا ہوا تھا۔

حُبِ دنیا تسلیمِ حق میں مانع ہے

ایک دن مامون الرشید نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ”تمہیں علم ہے کہ میرے اندر جو تھوڑی بہت تشیع ہے، مجھے کس نے سکھائی ہے؟“ درباریوں نے کہا: ”ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔“ مامون نے کہا: ”میں نے تشیع کا سبق اپنے باپ ہارون الرشید سے

لیا ہے۔

درباریوں نے کہا: ”یہ کیسے ممکن ہے؟ ہارون کو خاندان سادات سے سخت دشمنی تھی اور اس نے بہت سے سادات کو بے تیغ کیا تھا؟“

مامون نے کہا: ”سچ ہے! میرے باپ نے ہمیشہ سادات پر سختیاں کی تھیں اور انہیں قتل کیا تھا لیکن اس نے یہ سب کچھ اپنی حکومت و اقتدار کے تحفظ کے لئے کیا تھا۔“ ”لان الملک عقیم“ اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔“

ایک سال میرا باپ حج کے لئے مکہ گیا ہم اس کے ساتھ تھے۔ مناسک حج سے فارغ ہو کر میرا باپ مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچا تو دربانوں کو حکم دیا کہ مدینہ کا جو شخص بھی ملنے کے لئے آئے تو اس سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کا تعلق مہاجرین و انصار صحابہ میں سے کس کے ساتھ ہے؟

چنانچہ جتنے بھی اہل مدینہ ملاقات کے لئے آئے، انہوں نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا۔ ہارون ان کے باپ دادا کی اسلامی خدمات کو مد نظر رکھ کر انہیں انعامات دیتا رہا۔ دو سو دینار سے لے کر پانچ ہزار دینار تک اس نے لوگوں کو انعام دیا۔

ایک دن فضل بن ربیع جو کہ وزیر دربار تھا، نے اطلاع دی کہ آپ کے ملنے کے لئے ایک بزرگ آئے ہیں جن کا نام و نسب یہ ہے: ”موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔“

میرے باپ نے یہ نام و نسب سن کر مجھے اور میرے بھائیوں امین و مؤتمن اور لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ ہم ان بزرگوار کے ادب و احترام کے لئے کھڑے ہو جائیں۔

پھر ایک بزرگ تشریف لائے جن کا بدن عبادت کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور طولانی سجدوں کی وجہ سے ان کے اعضاء سجدہ زخمی تھے۔

جب ان کی نظر ہارون پر پڑی تو انہوں نے اپنی سواری سے اترنا چاہا لیکن میرے باپ ہارون نے کہا: ”آپ کو خدا کی قسم آپ سواری سے نہ اتریں۔“

جب وہ بزرگوار قالین کے قریب آئے تو اپنی سواری سے اترے۔ ہارون نے تخت سے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی آنکھوں کے پوسے دیئے، پھر ان کی لور میرے باپ کی گفتگو ہوئی۔

گفتگو کے دوران میرے باپ نے پوچھا: ”ابو الحسن! آج کل کتنے افراد تمہاری زیر کفالت ہیں؟“

انہوں نے کہا: ”پانچ سو افراد سے کچھ زیادہ افراد میری کفالت میں ہیں۔“

پھر میرے باپ نے پوچھا: ”کیا یہ سب آپ کی لولاد ہے؟“

انہوں نے کہا: ”نہیں ان میں سے زیادہ تر غلام کنیزیں اور ان کی لولادیں ہیں اور میری بنتیں (۳۵) لولادیں ہیں۔“

میرے باپ نے کہا: ”آپ نے اپنی بیٹیوں کی ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟“

انہوں نے کہا: ”میری مالی حالت نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔“

میرے باپ نے پوچھا: ”آپ کے باغات کس حال میں ہیں؟“

انہوں نے فرمایا: ”ان سے کبھی کبھک حاصل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔“

میرے باپ نے پوچھا: ”آپ کے ذمہ کتنا قرض ہے؟“

انہوں نے فرمایا: ”تقریباً دس ہزار دینار کا مقروض ہوں۔“

میرے باپ نے کہا: ”آپ بائبل نہ گھبرائیں، میں آپ کے ہاتھ میں اتنی رقم دے دوں گا جس سے آپ اپنے بچے اور بیٹوں کی شادی کر سکیں گے اور باغات کو از سر نو آباد کر سکیں گے۔“

یہ سن کر اس بزرگوار نے فرمایا: ”اگر تم ایسا کرو گے تو تم رشتہ داری کے حقوق پورے کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا۔“

عباس جناب رسول خدا اور علی ابن ابی طالب دونوں کے چچا تھے، ہم ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہیں، اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے، اگر تم ایسا کرنا چاہو تو یہ بعید نہیں ہے، اللہ نے حکام پر واجب کیا ہے کہ وہ غرباء کی مدد کریں اور مقروضوں کا قرض ادا کریں، بے لباس لوگوں کو لباس فراہم کریں اور تم پر اس سلسلہ میں سب سے زیادہ فرائض عائد ہوتے ہیں۔“

بارون الرشید نے کہا: ”یہ میرا فریضہ ہے، میں انشاء اللہ آپ کو بے نیاز کر دوں گا۔“

جب امام موسیٰ کاظم گھر جانے کے لئے کھڑے ہوئے تو میرے باپ نے ہم تینوں بھائیوں کو حکم دیا کہ: ”تم اپنے خاندان کے بزرگ کو ان کے گھر تک پہنچاؤ۔“

ہم امام موسیٰ کاظم کے ساتھ چلنے لگے۔ امام سوار تھے اور ہم پیدل چل رہے تھے۔ امام نے مجھے اپنے قریب کر کے کہا: ”بارون کے بعد خلافت تجھے ملے گی، خیال رکھنا میرے بیٹے کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔“

ہم انہیں ان کے گھر پہنچا کر واپس آئے۔ میں اپنے باپ کی لولاد میں سے کچھ جہازت والا لٹکا تھا۔ میں نے واپس آکر اپنے باپ سے پوچھا: ”یہ بزرگوار

کون تھے جن کا آپ نے اس قدر احرام کیا تھا؟“

میرے باپ نے کہا: ”یہ امام برحق اور حجت خدا ہیں۔“

میں نے کہا: ”تو کیا آپ امام برحق اور حجت خدا نہیں ہیں؟“

میرے باپ نے کہا: ”ہم جبر و غلبہ سے لوگوں کی گردنوں پر حکومت کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، میں تمہارے سامنے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت پوری روئے زمین پر ان سے زیادہ پیغمبر کی جانشینی کا اور کوئی حق دار نہیں ہے۔“

اس کے باوجود میں تجھے ایک بات بتاؤں کہ تو میرا بیٹا ہے اگر تو بھی حکومت کے لئے مجھ سے نزاع کرے تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ ”فان الملك عقيم“ اقدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔“

جب ہارون نے مکہ سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک سپاہ رنک کی تحصیل فضل بن ربیع کو دے کر کہا: ”یہ تحصیل امام موسیٰ کاظم کے پاس بھیج دو، اس میں دو سو دینار ہیں، ان سے معذرت کرنا اور کہنا کہ ہم اس وقت کچھ مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، عنقریب ہم آپ کو مزید رقم ارسال کریں گے۔“

مامون کہتا ہے: ”یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں نے جرأت کر کے اپنے باپ سے کہا کہ کچھ تو عدل و انصاف سے کام لیں۔ گناہم افراد کو آپ نے ہزاروں دینار دیئے اور جو آپ کا رشتہ دار ہے اور ہر لحاظ سے فائق ہے آپ اس کے لئے اتنی قلیل سی رقم بھیج رہے ہیں؟“

میرے باپ نے کہا: ”بے مادر خاموش رہ، اگر میں اپنے وعدہ کے مطابق اسے رقم دے دوں تو کل اس کے شیعوں کی ایک لاکھ تلواریں کا مجھے سامنا کرنا

پڑے گا، یہ خاندان جتنا تنگ دست ہو اس میں تیرا اور میرا فائدہ ہے۔“ (بخاری الانوار جلد ۱۱ صفحہ ۲۷۱)

بخاری نامی ایک شخص خلیفہ کا درباری گویا تھا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہوا۔ اس نے خلیفہ کے پاس آکر کہا: ”میں جب سے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ آیا ہوں یہاں کے لوگوں نے مجھ سے مالی مدد کا تقاضا کیا ہے، اگر میں انہیں کچھ دوں تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مجھ پر کتنے مہربان ہیں؟“

خلیفہ نے اس کے لئے دس ہزار دینار کا حکم دیا۔

اس نے دس ہزار دینار لے کر کہا: ”یہ رقم تو مجھ سے فقراء مدینہ لے جائیں گے میں خود مقروض ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے اتنی رقم عنایت کریں جس سے میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔“

خلیفہ نے اس کے قرض کی لواستگی کے لئے دس ہزار دینار دیئے۔

اس کے بعد اس نے کہا: ”میری بیٹیاں جو ان بوچکی ہیں، میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں مجھے اس کے لئے بھی رقم عنایت کریں۔“

خلیفہ نے اسے دس ہزار دینار عطا کئے۔

اس نے پھر کہا: ”مجھے اپنی اولاد کے لئے کچھ زمین کی ضرورت ہے تاکہ میری نسل کسی کی محتاج نہ رہے۔“

خلیفہ نے اس کے نام کچھ زمین لکھ کر دے دی جس کا سالانہ محصول دس

ہزار دینار تھا۔

اس کے بعد وہ گویا تمیں ہزار دینار اور زمین کے کاغذات لے کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: ”مولانا! اس لعین نے

آپ کے ساتھ جو سوک کیا ہے مجھے اس پر سخت افسوس ہے۔ میں یہاں سے تیس ہزار دینار اور زمین کی ملکیت کے کاغذات لایا ہوں آپ میری طرف سے یہ قبول فرمائیں۔“

آپ نے فرمایا: ”خدا تمہیں جزائے خیر دے، میں اس رقم میں سے ایک درہم بھی نہیں لوں گا اور نہ ہی یہ زمین قبول کروں گا۔ تم آرام و سکون سے چلے جاؤ اور مجھ سے اس کا اصرار نہ کرو۔“

بخاری نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور رولہ ہو گیا۔ (بخاری الانوار جلد ۱۱ صفحہ ۲۷۱)

حُبِ دُنْيَا كَا اِنْجَام

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جس کے رہائشی گلیوں اور گھروں میں مرے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”یہ لوگ اپنی طبعی موت نہیں مرے، اگر یہ طبعی موت مرتے تو کوئی انہیں دفن ضرور کرتا اور یوں پوری بستی ویران نہ ہوتی۔ یقینی طور پر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔“

حواریوں نے کہا: ”کاش ہمیں معلوم ہو سکتا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی کہ: ”آپ انہیں صدا دیں، ان میں سے ایک شخص آپ کے ساتھ بات کرے گا اور آپ

کے سوالوں کا جواب دے گا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی: ”بستی والو!“

ایک شخص نے جواب دیا: ”روح اللہ! فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟“

آپ نے فرمایا: ”تمہارا کیا معاملہ ہے اور اس وقت تمہاری حالت کیا

ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”ہم صبح کے وقت بالکل خیریت سے بیدار ہوئے تھے

اور شام کو ہم ”ہاویہ“ میں پہنچ گئے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”ہاویہ کیا ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”ہاویہ آگ کا دریا ہے جس میں پہاڑ جل رہے ہیں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: ”تمہارا جرم کیا تھا؟“

اس نے کہا: ”حب الدنيا و عبادة الطاغوت.“ دنیا کی محبت اور طاغوت

کی اطاعت نے ہمیں ہاویہ میں بھیجا ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”تمہیں دنیا سے کتنی محبت تھی؟“

اس نے کہا: ”جتنی محبت چھوٹے بچے کو ماں کے پستان سے ہوتی ہے۔

ہمیں بھی دنیا سے اتنی ہی محبت تھی۔ جب دنیا ہماری طرف رخ کرتی تو ہم خوش

ہوتے اور جب وہ منہ پھیرتی تو ہم غمگین ہو جاتے تھے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”طاغوت کی اطاعت میں تم کہاں تک

جا پہنچے تھے؟“

اس نے کہا: ”ہمیں طاغوت جو کچھ کہتے ہم اس پر فوراً عمل کیا کرتے

تھے۔“

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: ”ان تمام مردوں میں سے صرف

تو نے ہی مجھے جواب کیوں دیا اور باقی مردے کیوں خاموش رہے؟“

اس نے کہا: ”ان کے منہ میں آگ کی لگائیں ڈالی جا چکی ہیں اور تند خو اور

سخت گیر فرشتے ان کے عذاب کے لئے مامور ہیں۔“

میں بھی انہیں میں رہتا تھا لیکن میں ان کی پیروی نہیں کرتا تھا، جب اللہ

کا عذاب آیا تو اس نے مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت دوزخ کے

کنارے میں ایک بال کے ساتھ میں لٹکا ہوا ہوں اور اندیشہ ہے کہ کسی بھی وقت

وہ بال ٹوٹ سکتا ہے اور میں دوزخ میں جا سکتا ہوں۔“ فقال عیسیٰ لاصحابہ ان

النوم علی المزابل و اکل خبز الشعیر خیر کثیر مع سلامة الدين.“

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”سلامتی دین کے ساتھ نان جویں کھا کر

راوزی پر سونا بہت ہے۔“ (بخاری جلد ۱۳ صفحہ ۳۲۲۔ الکافی میں طاغوت کی جائے

احل معصیت کے الفاظ درج ہیں)

عشاقِ دنیا کی شکل و صورت

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک

پیر و کار ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان سے علم حاصل کرتا تھا۔ کافی عرصہ

کے بعد اس نے آپ سے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت دی اور فرمایا: ”جاؤ اپنے رشتہ

داروں اور بھائیوں سے ملو لیکن ایک بات کا خصوصی خیال رکھنا اللہ نے تمہیں علم

دیا ہے۔ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا اور علم کے بدلے دنیا طلب نہ کرنا ورنہ تم

تقصان اٹھاؤ گے۔“

شاگرد نے کہا: ”ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید ہے۔“

شاگرد چلا گیا اور عرصہ دراز تک موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس نہ آیا۔

آپ لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کرتے رہے لیکن کہیں سے بھی اس کی خبر نہ ملی۔ ایک دن آپ نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا: ”تم نے میرے فلاں شاگرد کو دیکھا؟“

جبرئیل امینؑ نے کہا: ”حضور! وہ مسخ ہو کر بندر بن چکا ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”اس کا جرم کیا تھا؟“

حضرت جبرئیل امینؑ نے عرض کی: ”اللہ نے اسے علم عطا کیا تھا لیکن

اس نے علم کو دنیا کے بدلہ میں فروخت کر دیا، اسی لئے خداوند عالم نے اسے مسخ کر کے بندر بنا دیا۔“

ایک عورت سے محبت کا انجام

بنی عباس کے ابتدائی خلفاء میں ”ہادی“ نامی خلیفہ گزرا ہے۔ یہ ہارون

الرشید کا بھائی تھا اور اس کی موت کے بعد ہارون الرشید برسر اقتدار آیا تھا۔

ہادی عباسی کے پاس ایک خوش آواز کینز تھی۔ جس کا نام ”عادرہ“ تھا۔

وہ اپنے دور کی حسین اور خوش آواز عورتوں میں شمار ہوتی تھی اور اس کے

پاس ادنیٰ ذخیرہ موجود تھا اور قادر الکلام شعراء کی نظمیں اسے از یاد تھیں۔

چنانچہ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ہادی عباسی اس کا عاشق تھا۔

ایک رات وہ ہادی عباسی کے محل سرا میں گانا گارہی تھی اور ہادی بیوی

محویت سے اس کا گانا سن کر محفوظ ہو رہا تھا کہ یکایک اس کی طبیعت متعش ہو گئی۔

جب کینز نے ہادی کی آکٹاہٹ محسوس کی تو اس نے بھدناز ہادی سے

آکٹاہٹ کا سبب دریافت کیا۔

ہادی نے کہا: ”کچھ نہیں! دراصل میں تمہاری صورت و آواز سے محفوظ

ہو رہا تھا کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں عنقریب مرجاؤں گا اور تو جس

طرح سے میرا دل خوش کر رہی ہے اسی طرح سے میرے بھائی ہارون کا دل

خوش کرے گی۔ یہی سوچ کر میں پریشان ہو گیا۔“

”عادرہ“ نے بھدناز سے جواب دیا: ”آپ کیسی باتیں کرتے ہیں،

کیا میں آپ کے بعد زخمی رہوں گی؟“

یہ نوع ہادی کی آکٹاہٹ دور نہ ہوئی اور کینز سے کہا: ”تم قسم کھاؤ میرے

مرنے کے بعد تم ہارون کا دل نہیں بھلاؤ گی۔“ کینز نے قسم کھائی۔

پھر ہادی عباسی نے اپنے بھائی ہارون الرشید کو بلایا اور کہا: ”زندگی کا کوئی

بمردوسہ نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو اور قسم کھاؤ کہ میرے مرنے

کے بعد تم عادرہ سے دل نہیں بھلاؤ گے۔“ ہارون نے بھی وعدہ کیا اور قسم کھائی۔

اس واقعہ کے ایک ماہ بعد ہادی عباسی مر گیا اور ہارون الرشید برسر

اقتدار آیا۔

چند دن بعد ہارون نے اسی کینز کو بلایا اور کہا: ”میں بھی تیرے وجود سے

بمردوسہ ہونا چاہتا ہوں۔“

کینز نے کہا: ”مگر ہم دونوں نے جو قسمیں کھائی تھیں ان کا کیا نئے گا؟“

ہارون نے کہا: ”میں اپنی اور تیری طرف سے قسم کا کفارہ ادا کر دیتا

ہوں۔“ اس کے بعد ہارون کے غادرہ سے وہی شب و روز گزرنے لگے جو اس کے بھائی کے گزرتے تھے۔

ایک دن غادرہ نے اپنا سر ہارون کی گود میں رکھا ہوا تھا اور اسے نیند آگئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہارون نے اس سے گھبراہٹ کا سبب پوچھا تو اس نے کہا: ”جیسے ہی مجھے آپ کی ران پر نیند آئی تو میں نے تیرے بھائی ہادی عباسی کو خواب میں دیکھا، اس نے مجھے کہا کہ جس نے تیرا نام غادرہ (بے وفا) رکھا تھا وہ بالکل سچا تھا۔“

پھر کینز نے کہا: ”ہارون! مجھے یقین ہے کہ میں آج رات تک مر جاؤں گی اور ہادی کے پاس چلی جاؤں گی۔“

ہارون نے اسے تسلیاں دے کر کہا: ”کچھ نہیں بعض اوقات انسان ایسے پریشان کن خواب دیکھ لیتا ہے۔ اس سے تجھے نہیں گھبرانا چاہئے۔“

لیکن اس کے بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کے پورے وجود میں رعشہ پیدا ہو گیا اور اس کا منہ کھل گیا اور آنکھیں پھیل گئیں۔ اسکی یہ مہیب صورت دیکھ کر ہارون اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ دیر بعد وہ مر گئی۔ (تفسیر البیہن صفحہ ۲۳)

چند روایات

سئل علی بن الحسین ای الاعمال افضل عند اللہ عزوجل فقال ما من عمل بعد معرفة اللہ و معرفة رسوله افضل من بغض الدنيا و ان لذلك شعبا كثيرة وللمعاصي شعباء فاول ما عصى اللہ به الکبر و هی معصية ابليس حين ابى واستکبر و کان من الکافرين.

والحرص و هی معصية ادم و حواء، حين قال اللہ لهما ”کلامن حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين“ فاخذوا مالا حاجة بهما اليه فدخل ذلك علی ذريتهما الی يوم القيامة و ذلك ان اکثر ما يطلب ابن ادم مالا حاجة به اليه.

ثم الحسد و هی معصية ابن ادم حيث حسد اخاه فقتله فتشعب من ذلك حب النساء و حب الدنيا و حب الرياسة و حب الراحة و حب الکلام و حب العلو و الثروة فصرن سبع خصال اجتمعن کلهن فی حب الدنيا فقال الانبياء و العلماء بعد معرفة ذلك حب الدنيا رأس کل خطيئة، و الدنيا دنيانان دنیا بلاغ و دنیا ملعونة.

”الکافی جلد ۲ صفحہ ۱۳۱“

امام علی زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا: ”اللہ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”اللہ اور رسول کی معرفت کے بعد افضل ترین عمل بغض دنیا ہے۔“

اس کی بہت سی شاخیں ہیں اور گناہوں کی بھی شاخیں ہیں:

خدا کی پہلی نافرمانی تکبر کی وجہ سے کی گئی اور یہ ابلیس کی نافرمانی تھی اس نے سجدہ کا حکم سن کر انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اور حرم سے آدم و حوا کی معصیت کا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا: ”جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔“

مگر آدم و حوا حرم سے مجبور ہو کر اس درخت کے پاس گئے اور جس کی ضرورت

نہ تھی انہوں نے اس سے استفادہ کیا اور یہی عادت بطور میراث قیامت تک ان کی نسل میں جاری رہے گی کیونکہ فرزند آدم زیادہ تر وہی چیزیں جمع کرتا ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔

ان دو گناہوں کے بعد حسد بڑا گناہ ہے اور اسی کی وجہ سے قابیل ملعون بنا کیونکہ اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔
پھر اسی صفت حسد سے یہ صفات رذیلہ پیدا ہوتی ہیں:

(۱) عورتوں سے محبت

(۲) دنیا سے محبت

(۳) حب ریاست

(۴) حب راحت

(۵) بات کرنے کی محبت

(۶) برتری کی محبت

(۷) دولت کی محبت

مجموعی طور پر یہ سات صفات رذیلہ ہیں ان سب کا سرچشمہ حب دنیا ہے۔

اسی لئے انبیاء و علماء نے اس نکتہ سے واقف ہو کر فرمایا تھا: ”دنیا کی محبت ہر غلطی کی بنیاد ہے۔“

مر قال رسول اللہ ”بعدي اسك ملقي علي مزبلة ميتا فقال لاصحابه كم يساوي هذا فقالوا لو كان حيا لم يساو درهما فقال النبي والذی نفسى بيده الدنيا اهنون علي الله من هذا الجدي علي اهله.

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ

ان کا گزر ایک اردوڑی سے ہوا جس پر کان کٹا ہوا بکری کا چہرہ پڑا تھا۔

آپ نے فرمایا: ”اس بکری کے چہرے کی کیا قیمت ہوگی؟“

اصحاب نے عرض کی: ”اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ایک درہم کے برابر بھی اس کی قیمت نہ ہوتی۔“

آپ نے فرمایا: ”مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس بکری کے چہرے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔“

عن ابی عبداللہ قال ان فی کتاب علی صلوات اللہ علیہ انما مثل الدنیا کمثل الحیة مالین مسها وفی جوفها سم الناقع یحذرھا الرجل العاقل ویبوی الیہا الصبی الجاہل: وقال الصادق مثل الدنیا کمثل ماء البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله.

”کافی جلد ۲ صفحہ ۱۳۶“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں درج ہے کہ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو کہ بہت نرم اور خوش رنگ ہے لیکن اس کے اندر زہر قاتل بھرا ہوا ہے، عقل مند شخص اس سے ڈرتا ہے اور بے وقوف چہرے اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: ”دنیا کی مثال سمندر کے پانی جیسی ہے، اسے جب کوئی پیسا پئے گا تو اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا جائے گا اور وہ پانی اسے مار ڈالے گا۔“

عن حماد بن بشیر قال سمعت ابا عبداللہ یقول مذنبان ضاریان فی غنم قدفارقھا رعاظھا احدھما فی اولھا والاخر فی آخرھا بالفسد فیھا من حب المال

”الکافی جلد ۲ ص ۳۱۵“

حماد بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا: ”اگر
بھیڑوں کے ریوڑ کا چرہا موجود نہ ہو اور اس کی عدم موجودگی میں دو بھیڑیے
ریوڑ میں چلے آئیں، ایک بھیڑ یا ریوڑ کی ابتدا میں ہو اور دوسرا ریوڑ کے آخر میں
ہو تو وہ دونوں بھیڑیے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ جب مال اور
جب منصب مسلمان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔“



قرآن، حدیث، تاریخ، اخلاق، اعمال اور دعاؤں پر مشتمل

علمی کتابیں

۱۰۱ ایچ پب مکالمے	باترجمہ
جواب حاضر ہے	باترجمہ
زیارات چہارہ معصومین	باترجمہ
درس اخلاق	باترجمہ
شیعہ ہی سلامت ہیں	باترجمہ
الیہ جمعرات	باترجمہ
تجوید القرآن	باترجمہ
کیفر گناہان کبیرہ	پاکٹ سائز
داستان از دو ج و تربیت	کلاں جلد
آموزش دین	پاکٹ سائز
اشھو! خون حسین کا انتقام لو	۲ جلدیں
لام صاحب الزمان کے اعمال	یک جلدی
اسلام کا تصور الوہیت	یک جلدی
مثالی ماں	۵ جلدیں
مثالی خواتین	جلد اول
گلدستہ مناجات	۵ جلدیں
حماہ و عرفان	۲ جلدیں

بچوں کیلئے باتصویر کہانیاں بھی دستیاب ہیں



حَسَن عَلِي بَنِي هُوَ بِالْقَائِلِ بِالْمَاءِ بَارَهُ، كَعْدَاوَر، كَرَامِي۔ فون: ۰۵۵-۲۲۲۲